

## (2) Suratul-Bakorah

*Ni orukq Ołqahun Ajöké aiye,  
Aşaké qrun.*

1. Alif, Lām, Mīm (Ołqahun nikan ni O mō ohun ti O gba lero pēlu awon harafi yi)<sup>[1]</sup>.

2. Tirà yi, ko si iyemeji ninu rē, o je itqosona fun awon ti nwọn nbēru (Ołqahun).

3. Awon ti nwọn nni igbagbo ninu ohun ti o pamq, ti nwọn si ngberun duro, nwọn si nna ninu ohun ti a pese fun wòn<sup>[2]</sup>.

4. Awon ti nwọn ngba ohun ti a sòkalè fun ɔ gbø, ati ohun ti a ti sòkalè şiwaju rē, nwọn si ni amodaju nipa qjø ikéhin.

5. Awon wönni si mbé lori itqosona lati ɔdq Oluwa wòn, awon wönni si ni wòn jère.

[1] Awon harafi ti a ge kuru gęgębi Alif, Lam, Mim tabi Ha, Mim ati iru wòn bębę je ami ɔrq ti o wa ninu ibęrę awon Suratu kan ninu al-Kurani Alapönle. Awon suratu wönni je mokandinłqgbon. Orişirişi ni itumq ti awon oni-tafsiri fun u. Awon harafi wönyi je mérinla ninu harafi mejidilqgbon ti ede Larubawa. Şugbón eyiti awon Alufa fi ara mō julq ni wipe ko si ęniti omq ohun ti Ołqahun gba l'ero pēlu awon harafi ti o bę-rę awon Surayı. Eyi nipe Ołqahun ni O mō ohun t'o-gba lero Pēlu wòn.

[2] Awon dię ninu ohun ti o pamq ni awon Malaika, Qjø igbende, Al-Janna ati Ina.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَ

ذَلِكَ الْكِتَابُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ هُدَىٰ لِلنَّاسِ

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقْبِلُونَ الصَّلَاةَ  
وَمَارَأَنَّهُمْ يُفْعَلُونَ

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزَلَ  
مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدَىٰ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ  
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

6. Dajudaju awon ti nwon kò gbagbo, bakanna ni fun wọn, bi o fę bi o kilo fun wọn tabi o kò kilo fun wọn, nwon ki yio gbagbo.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْ دَرَّتْهُمْ  
أَمْ لَمْ تُدْرِّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

7. Olahun ti (fi odidi) di ọkán wọn ati igboró wọn, ebibo si bo iriran wọn, iyà ti o tobi si mbẹ fun wọn.

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ  
أَبْصَرِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

8. O si mbẹ ninu awon enia ti nwipe: Awa gba Olahun gbọ ati qjo ikéhin, bẹni nwon ki işe onigbagbo rara.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِنَّمَا إِيمَانُنَا بِاللَّهِ وَإِلَيْهِ  
الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

9. Nwọn ntan Olahun je ati awon ti nwọn gbagbo; nwọn kò si le tan ẹnikèni je bikoṣe ori ara wọn sugbọn nwọn kò mò.

يُخَدِّغُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ إِذَا سَأُلُوا مَا يُخَدِّغُونَ  
إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَسْعُونَ ﴿٩﴾

10. Arun mbẹ ninu ọkan wọn<sup>[1]</sup>, nitorina Olahun şe alekun arun na fun wọn, iyà elero mbẹ fun wọn nitoripe nwọn ti npuro.

فِي قُلُوبِهِمْ تَرْكُضُ فَرَادُهُمْ اللَّهُ مَرْضَا  
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

11. Nigbati a ba si wi fun wọn pe: E ma şe şe ibajé lori ilé, nwọn a wipe: Awa je alatuşé ni<sup>[2]</sup>.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا  
إِنَّا نَحْنُ مُضْلُّوْنَ ﴿١١﴾

12. E kiyesi i, dajudaju awon gan ni obiléjé, sugbọn nwọn kò mò ni.

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

[1] Arun ti mbẹ ninu awon ọkan wọn ni aigbagbo ati işiyemeji.

[2] Awon alagabagebe ro pe awon je alatuşé nitoripe nwọn nba tötun tosi şe pö, nwọn si nrin mò wọn, nwọn nfi iru ibaşepö yi da rogbodiyan ati jamba silé larin awon ijo Musulumi ati awon alaigbagbo.

**13.** Nigbati a ba si wi fun wọn pe: E gbagbo gęęębi awon enia ti gbagbo; nwọn a wipe: Se ki awa gbagbo gęęębi awon omugę ti gbagbo? E kiyesi i, dajudaju awon gan ni omugę, şugbon nwọn kò mó ni.

**14.** Nigbati nwọn basi pade awon ti nwọn gbagbo, nwọn a wipe: Awa gbagbo; şugbon nigbati o ba ku wọn ku èsu ęęę wọn, nwọn a wipe: Dajudaju awa mbe pęlu nyin awa kàn nše yęęę ni<sup>[1]</sup>.

**15.** Olóhun yio san wọn lęsan yęęę wọn, yio si dę wọn lękę ninu agbere wọn, nwọn yio ma pa ragaji.

**16.** Awon wonni ni wọn fi itşona ra işina, nitorina ówo wọn kò lerè, nwọn kò si je olutona tara.

**17.** Apejuwe wọn dabi apejuwe ęnitı o da ina, şugbon nigbati ó ti molę yi i ka, Olóhun wa mu imolę wọn lq, O si fi wọn silę ninu okunkun biribiri, nwọn kò riran mó.

**18.** Aditi ni wọn, ayaya ni wọn, afoju ni wọn, nitorina nwọn kò ni pada mó.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِعْمَلُوكَمَا أَعْمَلَ أَنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّاهِرُونَ  
قَالُوا أَنَّا ظَاهِرُونَ كَمَا أَعْمَلْنَا مِنَ الشَّفَاهَةِ إِلَيْأَنَّهُمْ هُمْ  
الشَّفَاهَةُ وَلَكِنَ لَا يَعْلَمُونَ ١٦

وَإِذَا أَلْقَوُا الَّذِينَ إِمَانُوا كَمَا أَلْقَوْا إِيمَانَهُمْ إِذَا  
خَلَوْا إِلَى شَيْطَنِنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا أَنْتُمْ  
مُسْتَهْزِئُونَ ١٧

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَسْدُدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ  
يَعْمَلُونَ ١٨

أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَا نُورًا فَلَمَّا  
رَجَعُوكُمْ بِمَحَارَلَهُ دَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ  
وَرَكِّبُوكُمْ فِي ظُلْمَنَتٍ لَا يُبَصِّرُونَ ١٩

مَثَلُهُمْ كَمَثَلُ الَّذِي أَسْنَوْقَدَنَا رَأْفَلَمَّا  
أَصَاءَتْ مَاحُولَهُ دَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ  
وَرَكِّبُوكُمْ فِي ظُلْمَنَتٍ لَا يُبَصِّرُونَ ٢٠

صُمُمُ بِكُمْ عَنِّي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٢١

[1] Awon ti a pe ni èsu-ęęę wọn yi ni awon olori wọn ninu aigbagbo, awon babalorişa wọn ti nwọn gbojule.

**19.** Tabi ojabi agbanla ojo ti nrø lati sanma, okunkun biribiri ati ará ati manamana wà ninu rë, nwøn nfi ika wøn di eti wøn, nitorisisan àra fun ibéru iku; Oløhun si yika awøn alaigbagbø<sup>[1]</sup>.

**20.** Manamana na fèrè mu iriran wøn lø, nigbakigba ti o ba mòlè fun wøn, nwøn a rìnlo ninu rë, nigbati o ba si şokunkun mò wøn, nwøn a duro si; ibaşepè Oløhun fè ni, dajudaju On iba mu igborø wøn lø ati iriran wøn, dajudaju Oløhun ni agbara lori gbogbo nkan.

**21.** Ènyin enia: è sin Oluwa nyin, Èniti O da nyin ati awøn ti nwøn şiwaju nyin, ki è le mā bérù Oløhun.

**22.** Èniti O şe ilè fun nyin ni itè ati sanma nî àjà, O si nsø omi ojo kalè lati sanma, O si fi mu awøn eso jade ni ipese fun nyin, nitorina è maşe ba Oløhun wa ègbè, nigbati è mò (pe ko ni orogun).

**23.** Bi è ba si wa ninu iyemeji nipa ohun ti Awa sòkalè fun èrusin Wa, njè, è mu sura kan wa ti yio tabi rë ki è si pe awøn eleri nyin ti ki işe Oløhun, bi ènyin ba jè olotitò.

[1] Itumø owe yi ni wípe ojo tabi agbanla ojo duro fun awøn ãyah ti Oløhun sòkalè, okunkun biribiri duro fun aigbagbø tabi adanwo, ara si duro fun inira ati aigbadun eyi ti ima jè ohun aigbødø ma şelè ti o tø ti o yè fun titan ododo kalè, nigbati manamana duro fun rere ti a ma nsaba ba pade larin awøn adanwo ati inira ati aigbadun na.

أَوْ كَصَبَبْ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ طَلَبَتْ وَرَعْدٌ  
وَرُقْ بَجَلُونَ أَصْبَعَهُ فِي آدَانِهِ مِنَ الصَّوْعَةِ  
حَدَّرَ الْمَوْتَ وَاللَّهُ يُحِيطُ بِالْكَفَرِينَ ﴿١١﴾

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطُفُ أَبْصَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَهُمْ  
مَشَوْفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَاتَلُوا تَوْشَاهَ اللَّهِ  
لَذَّهَبَ بِسَعْهِمْ وَأَبْصَرَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ وَقَدِيرٌ ﴿١٢﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَعْدُدُ لَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ  
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ ﴿١٣﴾

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرِشاً وَالسَّمَاءَ بَنَاءً  
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَلَمْ يَهُدِهِ مِنَ الشَّرَرِ  
رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْنَعُوا إِلَهُ أَنَّدَادًا وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُوْكَ ﴿١٤﴾

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ تَبَارِزَنَا عَلَىٰ عَيْدِنَا كَافُوا  
بِسُورَةِ مِنْ مَثْلِهِ وَأَعْوَأُ شَهَدَ أَكُمْ تِنْ دُونِ  
اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِنَ ﴿١٥﴾

**24.** Şugbon bi ç kò ba şe e, ç ki yio si le şe e; nitorina, ç bëru ina eyiti ikoná rë je awon enia ati awon okuta, a pa a lese fun awon alaigbagbó.

**25.** Şe irohin idunnu fun awon ti won gbagbó ti nwon si nşışe rere pe dajudaju ti won ni awon ɔgba idéra ti awon odo nşan nisalé salé awon igi ati awon irugbin awon eso ɔgba idéra Alijanna<sup>[1]</sup>; nigbakigba ti a ba pese kan fun won lara awon eso ti mbé ninu rë<sup>[2]</sup>, nwon a wipe: Eyi ni ohun ti a ti pese fun wa şiwaju, a o si fun won ni ipese ti o jo ara won<sup>[3]</sup>; awon ənikeji (ninu awon obinrin) ti o mo si mbé fun won ninu rë, nwon yio si ma gbe ibé lailai<sup>[4]</sup>.

فَإِنَّمَا تَقْعِدُونَ لِنَّ تَفْعَلُوا فَإِذَا قَاتَلُوكُمُ الظَّالِمُونَ  
وَقُوْدُهَا أَنَّا شَوَّلْجَارَةٌ أَعْدَتْ لِكُفَّارِنَ

وَيَسِّرْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
أَنَّهُمْ جَنَّبْتُمْ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا يَنْهَى  
كُلُّ مَارِرٍ قُوْمَهَا مِنْ شَرَرِ زَرْقَافَالَّذِي  
هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلٍ وَأَنْوَاهِهِ مَنْشَهَا  
وَلَهُمْ فِيهَا آرْوَاحٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا  
خَلِيلُوك

[1] Al-Janna ni a pe ni ɔgba-idéra nihin, ti al-Kurani njuwe pe awon odo nşan ni isalé salé awon igi, awon irugbin ati awon eso alijanna naa. Eyi je apejuwe igbesi aiye ti mbé fun awon onigbagbó ododo. Al-kurani Alaponlè fi ye wa pe awon onigbagbó ododo ti nwon si nşe rere ni ɔgba idéra na yio je ti won ni igbesi aiye ti mbé lati sihan pe nwon ti mu eso igbagbó hu di ɔgba ti o gboro eyi si je idagba soke çmi işe rere ati ijosin fun Olóhun ti Olóhun ti fi ta won lorç.

[2] Risku na nję ipese tabi iję-imu, eyi si je eso ati çsan işe rere ti enia gbe ile aiye şe ti yio ri çsan rę gba lqdö Olóhun ləchin iku.

[3] Itumqo eyi ni pe nigbati awon onigbagbó ododo ba ntqo eso awon işe rere won wo ni igbesi aiye ti mbé nwon yio ri wipe awon eso na jo ara won, ti nwon yio dari awon eso iru eyiti won ti nję ni igbesi aiye yi, nitoripe awon eso igbesi aiye ti mbé yio dari awon eso çmi iye ti igbesi aiye yi.

[4] Awon ti a pe ni ənikeji yi le je awon iyawo tabi awon ɔkɔ won. Idi ti a si fi tumqo rę si ənikeji ni wipe tókunrin tobirin ni ɔrɔ na bawi. A ko si le lo o fun ɔkunrin nikán. Awon çlomiran ninu awon oni-tafsiri fi ənu kò si pe awon obirin çleyinju-egę ni Al-Kurani ntqka si. O si dari =

**26.** Dajudaju Qlohung kò tiju<sup>[1]</sup> lati pa owe kan (ti o mó) bi ẹfòn tabi nkan ti o ju u lo<sup>[2]</sup>, kéri awọn ti nwọn gbagbọ nwọn mó pe otitọ ni işe lati ọdq Oluwa wọn, ki ẹ si ri awọn ti nwọn kò gbagbọ, nwọn yio ma wipe: Kini ohun na ti Qlohung gba lero nipa owe yi, On yio mu ki ọpolopọ şina nipa rè, On yio si mu ọpolopọ mọna nipa rè, şugbọn On ki yio mu ẹníkan şina nipa rè bikiba şe awọn ẹleşe.

**27.** Awọn ti nyę majemu Qlohung lehin ifidimulé rè, nwọn si nja ohun ti Qlohung paşé pe ki a so o pò, nwọn si nşe ibajé lori ilè, gbogbo awọn wonyi ni awọn ẹni òfò.

**28.** Eše ti ẹ nşe aigbagbọ si Qlohung, bení oku ni ẹnyin jẹ On si şo nyin di aye? Léhinna On yio sọ nyin di oku, léhinna On yio sọ nyin di aye, léhinna a o si tun da nyin pada si ọdq Rè.

= ẹnipe, eyi ni Al-Kurani papa fara mó nigbati o wipe: «Awọn ati awọn iyawo wọn yio ma wa ni abé boji ti nwọn yio røgbóku lori awọn ibusun ti a gbega» Al-Kurani Alapónle, Suratu XXXVI Aya 56.

[1] Eyi ni pe Qlohung ka a si ohun pataki lati fi nkan şe akawe nitorí eyi le mu ki ọpolopọ enia ronu jinlé nipa ayah Rè.

[2] Bi a ba wo Suratu XXIX: 41 a o ri wipe Qlohung fi alatakun şe akawe awọn ti nsin nkan miran lehin Rè. Bakanna ninu suratu XXII: 73 O tun fi eşinşin şe akawe pe awọn ti ẹ nsin lehin Qlohung ko le da eşinşin eyiti o kere ju ti o si yepére ju ninu çda Qlohung. Iru awọn owe bayi ma nmú awọn ti nwọn ti kò ekò tara na silé kò eşe ni igbesi aiye wọn nigbati wọn ba ronu jinlé si ọrq Qlohung.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَغْنِيُّ إِنْ صَرَبَ مُكَلَّمًا  
بِعُوْضَةٍ فَمَا قَوْفَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءاْمَنُوا  
فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ  
كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِنَا  
مُشَلَّأً يُصْلِلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ  
كَثِيرًا وَمَا يُصْلِلُ بِهِ إِلَّا الْفَسَقِينَ

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسْكِنَةٍ  
وَيَنْقُطُعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ  
وَيُنْهَا سُدُودُكَ فِي الْأَرْضِ فَوَتَّلَكَ هُمُ  
الْعَنْتَرُورُوكَ

كَيْفَ تَكْفُرُوْكَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا  
فَأَحْيَنَّكُمْ ثُمَّ يُمْسِكُمْ ثُمَّ يُخْبِيْكُمْ  
ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

**29.** On na ni Ḥenitì o da gbogbo ohun ti mbè lori ilè patapata, fun nyin lèhinna On yi iha si sanma O si şe wòn ni sanma meje ni ḥogbadogba; O si je Olumò ohun gbogbo<sup>[1]</sup>.

**30.** Nigbati Oluwa rë si Wi fun awòn malaika pe<sup>[2]</sup>: Emi yio fi arole kan<sup>[3]</sup> si ori ilè, nwòn wipe: Irè yio ha fi si ori rë ḥenitì yio ma şe ibajé lori rë, ti nwòn yio si ma ta ejé silè; awa si nṣe a fo mò iyin Rè, a si nñi ogo fun Q? On si wipe: Dajudaju Emi mò ohun ti ḥenyin kò mò.

**31.** On si fi orukò gbogbo nkan mò Adama, lèhinna On fi wòn siwaju awòn malaika, O si wipe: È sò orukò awòn nkan wonyi fun Mi bi ḥenyin ba je olotito<sup>[4]</sup>.

[1] Nihin Qlòhun nñi ḥorò ye awòn èda Rè; O si mu wòn ronu lati mò pe On ni O da wòn, qdò Rè ni nwòn ti wa qdò Rè ni nwòn yio si pada si. È wo yika nyin, è kiyesi bi On ti fi gbogbo nkan şe iké nyin, ki è le mò iyi ati apónle ti On şefun nyin ninu gbogbo èda aiye. Sanma mejéje ti On da jéri si eto rë ti o kun fun ḥogbon ijinlé nitoripe mimò Rè yika ohun gbogbo.

[2] Awòn Malaika yi ni a tun npe ni Bafin-ḥorun. Nwòn je iranşé Qlòhun, ḥenitì Qlòhun fun ni orişirişi agbara ti nṣiṣe laiye ati lòrun. A ko le ro ḥorò ti Qlòhun ti O fun awòn malaika yi gęę̄bi amoràn ṣugbòn o je aşe pe «bayi ni Mo fę lati şe».

[3] Eyi fihan pe aye ti Qlòhun fi enia si lori ilè aiye ga julò tobé ti awòn Malaika fi njowu aye na. Bi a ba ronu jinlè daradara ḥorò ti Qlòhun ba awòn Malaika sò yi ati esi ti nwòn fo fihan ni laisi iyemeji pe awòn èda kan ti wa lori ilè aiye yi siwaju Adama ati awòn ḥomo rë.

[4] Qlòhun kò Adama ni o rukò ati elo gbogbo nkan eyti awòn Malaika kò mò nitori gbogbo nkan lòdq awòn Malaika èda Qlòhun ni nwòn mò wòn si.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ كَجِيعًا  
ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى آسَكَانِهِ فَسَوَّهُنَّ سَبَعَ  
سَمَوَاتٍ وَهُوَ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي  
الْأَرْضِ خَلِيقَةً فَالْوَالَّا تَجْعَلُ فِيهَا مِنْ يُفْسِدُ  
فِيهَا وَيُسْفِكُ الْدِرَمَاءَ وَنَعْنَسْبَيْحَ حَمَدَكَ  
وَفَدَّسْ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

وَعَلِمَ إِذَا دَعَاهُمْ كُلُّهُمْ عَرْضَهُمْ عَلَى  
الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِيُونِي بِإِنْسَانَةٍ هَؤُلَاءِ  
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

**32.** Nwọn wipe: Ogo ni fun Q, kòsi imo kan fun wa ayafi eyiti O ti fi mo wa, dajudaju Iré ni Olumó, Ològbón.

**33.** On wipe: Adama, so oruko won fun wọn; nigbati o so oruko won fun wọn, On Ològhun wipe: Njé Emi ko ha ti so fun nyin pe dajudaju Emi mo ohun ti o pamó ni ọrun ati aiye, Mo si tun mo ohun ti e fihan ati eyiti e fi pamó.

**34.** Nigbati Awa si wi fun awon malaika pe: E tèriba fun Adama, nwòn si tèriba ayafi Iblisu nikan<sup>[1]</sup>, ni o kò, on si se igberaga o si je ọkan ninu awon alaigbagbo.

**35.** Awa wipe: Adama! iwò ati iyawo rẹ, e ma gbe inu ọgba-idéra na<sup>[2]</sup>, ki e si ma je ninu rẹ nigbèfè, ni aye kaye ti e ba fè; şugbòn e maše sunmó igi yi ki e ma ba di ara awon alabosi.

**36.** Şugbòn èsu mu awon mejéji yé ẹsé kuro ninu rẹ, o si mu won jade kuro ninu aye ti awon mejéji ti wa. Awa Si wipe: E sòkalè, ki apakan nyin ma ba apakan se ọta,

فَالْوَاسْبِحْتُكَ لَا عِلْمَ لَيَا إِلَّا مَا عَنَّتْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

قَالَ يَكَادُمْ أَنْتِهِمْ بِأَسْمَاهِمْ فَلَمَّا آتَاهُمْ  
بِأَسْمَاهِمْ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ عَيْبَ  
الْأَسْمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْلَمُ مَا تُبَدِّدُونَ وَمَا كُنْتُ  
كَنْتُمْ

وَإِذْ لَمْنَا الْمُلْكَ كَمَا سَجَدُوا  
إِلَّا إِنَّمَا أَنْتَ وَأَسْتَكِنْ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِ

وَفَلَمَّا يَأْتِمْ أَنْتَ رَوْجُوكَ الْجَنَّةَ وَكُلَّا مِنْهَا  
رَغْدَأَ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَفَرَ بِهِنْدَهُ الشَّجَرَةَ فَكَوْنَنَا  
مِنَ الظَّالِمِينَ

فَأَرَلَهُمَا الشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا كَانَا فِي  
وَفَلَمَّا هَبِطُوا بِعَصْكُرٍ بِعِصْ عَدُوٌّ وَلَكُرٌ فِي الْأَرْضِ  
مُسْفِرٌ وَمُنْتَهِيَ الْأَجْنِينِ

[1] Iblisu yi je okan lara awon Malaika. Awon miran ninu awon onitafisir gba pe iblisu yi je Alijonu, Iblisu yi kanna ni a npe ni Shaitani tabi ese.

[2] A le bere lòwo ara wa pe: Njé ọgba-idéra je aye kan lori ile aiye? Agbedo, o. Nitioripe lèhin ikosé Adam ni Oluwa to şeshe so qró ti wa, áyah kérindinlogoji eyiti o tubo la qró na ye wa yekeyeke.

o si mbę fun nyin lori ilę ibugbe kan ati ese fun igba dię<sup>[1]</sup>.

**37.** Léhinna Adama ri awọn ǫrò kan gba lati ǫdö Oluwa rę, nitorina On gba ironupiwada rę, dajudaju On ni Olugba ironupiwada, Alanu<sup>[2]</sup>.

**38.** Awa wipe: E şokalę kuro ninu rę patapata, nitoripe dajudaju itosqona yio ma de wa ba nyin lati ǫdö Mi; nigbana, ęnikęni ti o ba tèle itosqona Mi, ibęru ki yio si fun wọn, nwọn ki yio si banuje.

**39.** Ki o si ri awọn ti nwọn şaigbagbę, ti wọn si pe awọn ăyah Wa ni iro gbogbo awọn wonyi ni ero ina, nwọn yio si ma gbe ibę lailai<sup>[3]</sup>.

**40.** Qmø Israila! e ranti őre Mi ti mo şe fun nyin, kię si mu

فَلَمَّا نَزَّلَنَا عَلَيْهِ مُرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهِ كَلَّتِنَا فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ

الْوَلَّابُ الْجَمِيعُ

قُلْنَا أَهْمِطْهُمْ مِّنْهَا جَيْعًا فَإِنَّمَا يَأْتِي سَكُونٌ مِّنْ

هَذِي فَمَنْ تَبَعَ هُدًى إِذَا فَلَّاخَوْفُ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ بِهِمْ بَرُّونَ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِمَا يَأْتِيَنَا أُولَئِكَ أَخْسَبْ

النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

[1] Gbigbe aiye enia lori ilę aiye fun igba dię ni ki on le ba şe awọn işę pępępe ti o ni lati şe gęgębi ęda Qłohun lori ilę aiye, ki awọn işę yi si je ibu kę ękę fun u fun iloşiwaju rę nipa ęmi iye ati fun ohun ti işe ti Qłohun.

[2] Itumø eyi ni kukuru ni wipe «Qłohun» kę Adama pe ki o tuba, nigbati o si tuba, Qłohun fi oriji i, Apakan ninu awọn oni-tafsiri wipe gbolohun tabi awọn ǫrò ti Adama ti gba yi ni: «Oluwa» wa, awa ti şe abosi fun ori ara wa, bi O kò ba foriji wa ki O şanu dajudaju awa yio ma bę lara awọn ti wọn şofo». Nigbati Adama kò dękun wiwi gbolohun yi nigbakugba. Qłohun gba ironupiwada rę, O si dariji i, O si şanu rę.

[3] Erongba pęlu «khalada» ninu ęşę yi ni: gbigbe ina lę gberę titi lailai, fun ęniti awọn irohin ti o wa ninu ęşę yi ba wa fun. Eyini keferi si Qłohun, sise atako Qłohun ati awọn arisami rę, ati awọn ojiszę rę, ati awọn tira rę.

majemu Mi şe. Emi yio mu majemu nyin şe; Emi nikanso ni ki e si paiya.

وَأَوْفُوا بِمِهْدِي أُوفِيَعَدُكُمْ وَإِنَّمَا فَازَ هُؤُلَاءِ

**41.** E si gba ohun ti Mo sòkalè gbo, ti njeri si ohun ti mbè pèlu nyin: e maşé je eni akokò ti yio şe aigba a gbo, e ma si şe ta awon ami Mi ni owó pòku, Emi nikanso ni ki e si bëru.

وَإِمْنَاعِيَّاً أَنْزَلْتُ مُصَدِّقَالْمَائِمَكُمْ وَلَا  
تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرُهُ وَلَا تَنْتَهُوا إِنَّمَا قَبِيلَةَ  
وَإِنَّمَا قَاتَفُونَ

**42.** E ma si şe fi irò bo otito molè ki e si fi otito pamò bëni e si mò.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَطْلِ  
وَتَكْبِرُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

**43.** E mā kirun dede, ki e si mā yan saka, ki e si mā tè pèlu awon ti ntè (ninu irun).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَفْوِيُ الزَّكُورَةَ وَأَذْكُرُوا مَعَ  
الرَّزْكِينَ

**44.** Eşe ti enyin nforo awon enia lati ma şe rere, ti e si ngbagbe ori ara nyin, bëni e si nke tirà na, e kò ha şe lakaye ni?

وَأَنَّمَرُونَ النَّاسَ بِالِّبَرِ وَنَسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ  
وَأَنْتُمْ تَنْثُلُونَ الْكِتَبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

**45.** E wa iranlòwò pèlu suru ati irun kiki, dajudaju o je nkan ti o wuwo, ayafi fun awon ti o paiya Olòhun.

وَأَسْعَيْنَا بِالصَّبَرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لِكَبِيرَةٌ  
إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ

**46.** Awon ti nwòn mo pe dajudaju awon yio pade Oluwa wòn ati pe qdò Rè ni nwòn yio pada si<sup>[1]</sup>.

الَّذِينَ يُظْلَمُونَ أَتَهُمْ مُلْفُوَرَبِهِمْ وَأَتَهُمْ إِلَيْهِ  
رَجِيعُونَ

[1] Suru ti Olòhun ni ki a şe nihin pin si qna mëta. Ikinni, ifarada inira, ikeji, iduro şinşin lori sinsin Olòhun, ikëta, iroju kuro nibi eşe Olòhun ki a ma şe e.

**47.** Ènyin qmø Israila! è ranti idëra Mi eyiti Mo ñe fun nyin ati pe Emi ñe ajulo fun nyin lori gbogbo èda.

**48.** È bëru ojo kan, to je pe èmi kan kò ni le ñe anfani kan fun èmi keji. Bëni A ki yio gba ipé ñiše kan lqwò rè, a ko si ni gba ãrò kan lqwò rè, a ki yio si ran wòn lqwò<sup>[1]</sup>.

**49.** È si ñe iranti nigbati Awa gba nyin là lqwò awon enia Firiaona to nfi iya buburu je nyin, o ndunbu awon qmø ñokunrin nyin o si nda awon qmøbirin nyin si. Ninu eyi to nse nyin ni adanwo ti o tobi lati qdø Oluwa nyin.

**50.** È si ñe iranti nigbati Awa pin okun si qtotò fun nyin ti A si gba nyin là. A si tè awon enia Firiaona ri, bëni ènyin nwo o.

**51.** Ati nigbati A ba Musa ñe adehun fun ogoji oru, lèhinna è tun mu ogedengbe malu (ni oluwa) lèhin rø, alabosi ni nyin<sup>[2]</sup>.

**52.** Lèhinna A moju kuro fun nyin lèhin eyini ki è ba le ma dupe.

**53.** È ranti nigbati A fun Musa ni Tirà ati ipinya ki ènyin le ba mònà.

يَبْجِي إِلَيْهِ يَلْيَدُونَ وَأَنْتَ رَبُّ الْمُرْسَلِينَ  
وَأَنِّي فَصَلَّيْتُ عَلَى الْمُلَائِكَةِ  
وَأَنَّقُوا لِي مَا لَمْ يَحْرُزِي نَفْسِي شَيْئًا وَلَا  
يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَذَابٌ وَلَا هُمْ  
يُنْصَرُونَ

وَإِذْ جَاءَكُمْ مِنْ أَهْلِ فِرْعَوْنَ  
يُسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَحِّمُونَ أَبْنَاءَكُمْ  
وَيُسْتَحْيِيُونَ بَنَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ  
مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

وَإِذْ فَرَقْنَا لَكُمُ الْبَرَّ فَأَبْيَنَكُمْ  
وَأَغْرَقْنَا إِلَيْهِ فِرْعَوْنَ وَأَنْشَأْنَا نَظَرَوْنَ

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَنْ يَبْعَثَنَا لِيَلَةً ثُمَّ أَخْذَنَاهُ  
الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلِيلُونَ

شَمَّ عَقْوَنَا عَنْكُمْ مِنْ نَعْذَبَ لَكُمْ  
شَكَرُونَ  
وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ  
لَعَلَّكُمْ تَهَذَّبُونَ

[1] Qjø ti ãyah yi nsø nipa rø ni qjø Igbende.

[2] Wo suratu VII: 142 fun ifqosi wewø Äyah yi

**54.** È si şe iranti nigbati Musa so fun awon ijo rèpe, ènyin ijo mi, dajudaju ènyin ti şe abosi fun ara nyin nipa mimu ogedengbe malu (ni oluwa) nitorina, è ronupiwada lo si odo Elèda nyin, ki è si pa ara nyin. Eyini ni o dara fun nyin julò lòdq Elèda nyin: O si ti gba ironupiwada nyin, dajudaju On ni Olugba'ronupiwada, Alanu<sup>[1]</sup>.

**55.** È si şe iranti nigbati ènyin wipe: Irè Musa, a ki yio gba o gbò ayafi ki a ri Qlòhun ni ojukoroju. Nipa bayi, igbe àrà mu nyin, è wa nwo-bo.

**56.** Léhinna a tun ji nyin dide léhin iku nyin ki è ba le ma dupç<sup>[2]</sup>.

**57.** A fi eşu ojo şiji bo nyin, A si so oyin-funfun ati çran eiyé kale fun nyin, è ma je ninu ohun aladun ti a pese fun nyin, nwòn ko şe abosi fun Wa. Sugbon ori ara wòn ni nwòn bo si.

**58.** Ati nigbati Awa wipe: È wo

[1] Pipa ara nyin to wa ninu ãyah yi. apa kan awon alufa oni-tafsiri tumo rë si pe, Qlòhun ni ki awon ti ko sin ogedengbe malu pa awon ti nwòn sin i; Sugbon, apa kan so wipe: ero ngba nibi pipa ara yin nipe: ki gbogbo wòn to si qna meji ki wòn ma pa ara wòn. Onka awon ti o ku je «70,000»: çgbérùn lona adòrin. Léhin eyi ni Oluwa da ogun yi duro fun wòn. O si je «Saiidi» fun awon toku, Osijé aforijin fun awon towa laiye.

[2] Igbedide léhin iku ti a wi yi ki işe iku gan. Nigbati wòn so ohun ti o ju ènu wòn lo ni Qlòhun şe fi idagiri iku da wòn, sugbon léhinna, Qlòhun tun so wòn jí pada.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِرَبِّهِ يَقُولُ إِنَّكُمْ طَاغِيْتُمْ  
أَنفُسَكُمْ بِاَنْخَذَتُمْ الْعِجْلَ فَتَوَوَّلُ اِلَيَّ  
بَارِيْكُمْ فَأَنْتُمُ الْأَنْفَسُكُمْ وَلَا كُمْ خَيْرٌ كُمْ عِنْدَ  
بَارِيْكُمْ فَنَابَ عَيْنَكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْوَزَّابُ الْحَيْمُ  
٦١

وَإِذْ قَلَّتْ نِسَمَتُ مُوسَى لَئِنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَقَّ رَبِّكَ  
جَهَرَةً فَأَخَذَنَكُمُ الصَّعِيْقَةَ وَأَنْشَأَ  
نَظْرَوْنَ  
٦٢

ثُمَّ بَعْثَتْنَاكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَشَكُّرُونَ  
وَظَلَّلَنَا عَيْنَكُمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلَنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ  
وَالسَّلَوَىٰ كُلُّوْمَنْ طَبِيْبَتْ مَارَرَقَنَكُمْ  
وَمَآظِلَّمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفَسَهُمْ يَظْلِمُونَ  
٦٣

وَإِذْ قَلَّتْ آذْلَمُوا هَذِهِ الْقَرَبَةَ فَكَلُّوا مِنْهَا حَيْثُ

ilu yi ki ẹ ma jẹ ninu rẹ ni ayekaye ti ẹ fẹ nigbẹfẹ ki ẹ si gba oju ọna wọ ilu na ni iteriba, ki ẹ ma wipe: Tari ẹşẹ wa kuro, Awa yio fi ori ẹşẹ nyin ji nyin. A o si şe alekun (esan rere) fun awọn oluşe rere.

**59.** Şugbọn awọn ti nwọn şe abosi yi Ṅrò na pada yato si eyiti a sọ fun wọn, nitorina, A sọ ajakalè-arun kalè lati sanma le awọn to şe abosi lori nitoripe nwọn jẹ ọdẹşẹ.

**60.** (E tun ranti) nigbati Musa nwa omi fun awọn enia rẹ, Awa si wipe: Fi ọpa rẹ na okuta; bẹni orisun-omi mejila si nṣan jade ninu rẹ, olukuluku iran si mọ ibu-mumi wọn: E jẹ, ki ẹ si mu ninu èse Olóhun, ki ẹ maşé huwa ibi ni ori ilè niti obilejẹ.

**61.** (E tun ranti) nigbati ẹnyin wipe: Iré Musa! awa ko le ni ifarada lori onjé kanşoşo, nitorina bẹ Oluwa rẹ fun wa ki O mu jade fun wa ninu ohun ti ilè nhu jade bi ewebẹ rẹ ati elegede rẹ ati ọka rẹ ati ẹwa rẹ ati alubosa rẹ. On wipe: Ẹnyin o ha fi eyito buru paro eyiti o dara bi? E sokalè lọ si ilu kan, dajudaju ohun ti ẹnyin bere fun mbẹ nibẹ, a si mu iréle ati oṣi ba wọn, nwọn si fa ibinu lati ọdq Olóhun, eyini jẹ bẹ nitoripe nwọn şe aigbagbọ si ãyah Olóhun, nwọn si pa awọn annabi lai-jẹ-ori eto,

شَتَّمْ رَغْدًا وَذُلْلًا تَبَكُّرًا وَقُولُوا  
حَطَّةً تَهْفِرُ لَكُمْ خَطَّيْكُمْ وَسَنَرِيدْ  
الْمُخْسِنِينَ ﴿٦٨﴾

فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قُلَّا عَيْدَ الَّذِي قَدَّ  
لَهُمْ فَأَزَّلَنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا بِجَرَاجَمَ  
السَّمَاءَ بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ ﴿٦٩﴾

وَإِذَا سَنَقَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَلَمْنَا أَنْصَرْ  
عَصَمَاتَ الْحَجَرَ فَلَمَّا حَرَثَ مِنْهُ ثَنَاعَةً  
عِنْسَانًا دَفَعَهُ كُلُّ أَنْسَابٍ مُنْتَهِيَّهُمْ كُلُّهُ  
وَأَنْشَرُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنَوْنَافِ  
الْأَرْضَ مُفْسِدِينَ ﴿٧٠﴾

وَإِذْ قُلَّسَدَ يَمْوُسَى لَنْ تَصِيرَ عَلَى طَعَامِهِ وَاجِدٌ  
فَانْجَلَعَ لَنَارَيَّكَ يُخْرِجُ لَنَاسَمَّأَتْ بُلْبُلَتْ الْأَرْضِ مِنْ  
بَقْلَهَا وَرَثَّ إِيمَاهَا وَفُورَمَاهَا عَدَيْهَا وَبَصَلَهَا  
قَالَ أَتَسْتَدِلُوكَ الَّذِي هُوَ أَدَفَ بِالْأَرْضِ  
هُوَ يُبَرِّئُ أَهْيَطُوا مِصَارِقَ رَفَدَ كُمْ تَمَسَّكَهُ  
وَضَرَبَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضَ وَالْمَسَكَهُ وَبَاهُو  
يَعْصِمَ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِإِنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ  
يَأْيَتِ اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ أَنَّهُنْ بِعَيْدِ الْحَقِّ  
ذَلِكَ مِنْ عَصَمَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧١﴾

eyini je bę nitoripe nwọn şe aigboran nwọn si kɔja ęnu ala (Olqhun).

**62.** Dajudaju awon ęniti o gbagbø ati awon ti nwọn je Yahudi ati awon Nasara ati awon Sabiawa, ęnikeni ti o ba gba Olqhun gbø ati ojø ikéhin ti o si nse işe rere, ęsan wọn mbę fun wọn lqdø Oluwa wọn, ki yio si iberu fun wọn bəni nwọn ki yio banuje<sup>[1]</sup>.

**63.** (Ę tun ranti) nigbatı Awa gba adehun nyin ti Awa si gbe oke<sup>[2]</sup> ga lori nyin (ti A si wipe): Ę gba ohun ti A fun nyin mu şinşin ki ę si ma ranti ohun ti mbę ninu rę, ki ęnyin ba le bəru (Olqhun).

**64.** Léhinna ę pehinda léhin eyi; bi kò ba si ñre-ajulø Olqhun ti mbę lori nyin ni ati anu Rę dajudaju ęnyin iba je ęni-ofò.

**65.** Dajudaju ęnyin ti mò awon ęniti o kɔja ęnu-ala ninu nyin nipa

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّدَرَى  
وَالصَّابِرِينَ مِنْ مَنْ يَأْتِيَ اللَّهُ وَآتَيْتُمُوهُ أَخْرَى  
وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٧﴾

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيشَنَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الظُّورَ  
خُذُوا مَا أَتَيْتُكُمْ بِقُوَّةٍ وَآذْكُرُوا مَا فِيهِ  
لَعْلَكُمْ تَتَّقَوْنَ ﴿٦٨﴾

ثُمَّ نَوَّبْنَا شُمُّرٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُهُ لَكُنُّمُ مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿٦٩﴾

وَلَكَذِ عِلْمُ الَّذِينَ أَغْنَدُوا مِنْكُمْ فِي الْسَّبَبِ

[1] Itumq ḥayah yi ni pe awon onigbagbø ododo ati awon ęleşin Yahudi (Jü) ti nwọn gba ojulowo ohun ti Annabi wọn kɔ wọn ati ęleşin Kristiani (Kiriyo) ti nwọn gba ojulowo ohun ti Annabi Issa kɔ wọn, ati awon ęleşin Sabiina tabi Sabiawa ti nwọn gba ojulowo ohun ti Annabi wọn kɔ wọn pęlu iwa rere yio ri ęsan rere gba lqdø Olqhun. Sabi-in a je ęya kan ninu awon ęleşin Kiriyo kan (Christiāns of St. John the Baptist), ni ilu Babilonia ni nwọn wà.

[2] Oke na ni oke sinai (Turu's-Sinai) Itumq gbigbe oke ga kɔja wọn ni pe, ni isalę oke yi ni nwọn pagø si nigbatı Olqhun nba wọn da majemu lati զdq Musa.

Qajo-İsimi; nitorina Awa si wi fun wọn pe: E da qbo, eñi çsin ati irira<sup>[1]</sup>.

**66.** A si şe ni arikögbon fun awon ti o şoju rë ati awon ti o tèle ati ikilö fun awon oluberu (Olqhun).

**67.** (E tun ranti) nigbati Musa wi fun awon enia rë pe: Dajudaju Olqhun paşé fun nyin pe ki e pa abo-málù kan<sup>[2]</sup>; nwòn wipe: Iwò ha nfi wa şe ęfè ni bi? O wipe: Emi wa işori lqdö Olqhun pe ki emi je ara awon ope.

**68.** Nwòn wipe: Bawa bę Oluwa rę ki O fi ye wa, ewo ni. On (Musa) wipe: Dajudaju On (Olqhun) wipe: Abo-malu ni, ti ki işe ogbologbo ti ki si işe ọdq, eyiti mbę larin mejëji yi ni; nitorina ki e şe ohun ti a pa laşę fun nyin.

**69.** Nwòn wipe: Ba wa bę Oluwa rę ki O fi ye wa, kini awo rę ti ri. O (Musa) wipe: Dajudaju O (Olqhun) wipe: Abo malu ni,

فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوا فِرَدَةٍ حَسِينَ ﴿٦﴾

فَعَلَّمْنَاهُنَّا كُلَّا لِسَانَيْنِ يَدِيهِمَا وَمَا خَلَفَهُمَا

وَمَوْعِدَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تَذَكُّرَ أَبْقَرَهُمْ فَالْأُولَاءِ نَجْدَنَاهُمْ رُواً فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُجْهِلِينَ ﴿٨﴾

قَالُوا أَذْنُعُ لِنَارِكَ بَيْنَ لَنَامَاهِيٍّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا يُكَرِّعُونَ إِنَّهَا كَذَلِكَ فَأَفْعَلُوا مَا تُؤْمِنُونَ ﴿٩﴾

قَالُوا آذْنُعُ لِنَارِكَ بَيْنَ لَسَامَالَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءَ فَاقْرِئْ لَوْنَهَا لَسْرَالَنَظَرِيْنِ ﴿١٠﴾

[1] As-Sabtu ni qjo Satide (Saturday) on ni qjo isinmi awon Yahudi atipe on ni qjo Isimi ti Annabi Issa na ti o si fi kq awon qmø-çhin rę. Nwòn sq qjo Sønde (Sunday) ti işe ti awon ti nwòn nbø orün ni ilu Romu di isimi dipo Satide lęhin ọdunrun ọdun ti Jesu ti kuro laiye.

[2] Idi ti Olqhun fi sq pe ki nwòn pa iru malu yi ni pe, gęgębi a ti ka nipa ere ogedengbe malu oni-wura ti awon qmø Israila sq di orişa ti nwòn nbø; ifçran orişa yi mu wòn lati ma kę awon malu ti o ni awo bi wura ati lati sq wòn di ohun akunlębo gęgębi ayah 93 ti sq pe nwòn ti mu ifç isin Ogedengbe malu yi. Nitorina ni Olqhun şe sq pe ki nwòn pa iru malu yi, ki ifç malu bibq le kuro lękan wòn.

alawo iyeye ti o mo, awo re a ma  
wu awon ti nwo o.

**70.** Nwọn wipe: Ba wa be Oluwa  
re ki O fi ye wa, ewo ni, dajudaju  
awon abo-malu na jora loju wa,  
dajudaju awa, bi Olóhun ba fe a o  
di eniti o mona.

**71.** O (Musa) wipe: Dajudaju O  
(Olóhun) wipe: Abo malu ni ti ki  
ise malu yeperé ti nroko, ti kò si  
won omi si oko, ti o ni alafia ti kò  
ni abuku kan lara, Nwòn wipe:  
Nisiyi ni iwò mu ododo wa;  
nitorina nwòn si pa a sughon nwòn  
fere ma se e.

**72.** E tun ranti nigbati enyin pa  
emi kan, ti e si nti i si ara nyin,  
beni Olóhun si ni olufihan ohun ti  
e fi pamò.

**73.** Nitorina A wipe: E lu u (oku  
na) pèlu apakan re; bayi ni Olóhun  
se nsò oku di aye, O si fi awon  
ayah Re han nyin ki enyin ba le se  
lakaye.

**74.** Léhinna okàn nyin si le léhin  
eyi ni, o si dabi awon apata tabi o  
le ju u lò; dajudaju o si mbé ninu  
awon apata na ti odo nsàn lati inu  
re jade, dajudaju eyiti o nsan si nbé  
ninu won ti omi nsàn jade lati inu  
re, dajudaju o si mbé ninu won ti  
nwo lulè fun ibéru Olóhun, beni  
Olóhun ki ise onigbagbe nipa ohun  
ti enyin nse.

قَالُوا أَذْعُنُ لِنَارِيَكُمْ بَيْنَ لَنَامَاهِ إِنَّ الْبَقَرَ شَبَّهَ

عَيْنَنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْهَدُونَ

﴿٧﴾

قَالَ إِنَّمَا يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرٌ لَاَذْلُولٌ شَبَّهَ الْأَرْضَ

وَلَاَشْتَهِيَ الْحَرَقَ مُسَلَّمٌ لَاَشِيهَ فِيهَا قَاتِلًا

أَفَكُنْ جِئْنِيَ الْحَقَّ فَدَجَّبُوهَا وَمَا كَادُوا

يَفْعَلُونَ

﴿٨﴾

وَإِذْ قَاتَلُوكُمْ نَفْسًا فَآتَرُوهُ ثُمَّ فِيَّا وَاللَّهُ أَخْرِجَ

مَا كُنْتُمْ تَكْنُونُ

﴿٩﴾

فَقُلْنَا أَضْرِبُهُ بِعِصْمَهَا كَذَلِكَ يُنْجِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَ

وَبِرِيشِكُمْ إِيَّتُهُ لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ

﴿١٠﴾

ثُمَّ قَسَّتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فِيهِ كَلْحَاجَارَةُ

أَرْأَى شَدَّدَقَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحَجَارَةِ لَمَيَنْفَجِرُ

مِنْهُ أَلَّا تَهُرُّ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَيَشْقُقْ فِيَرْجُ

مِنْهُ أَلَّا تَهُرُّ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَيَهْرِطْ مِنْ حَسْنَةِ اللَّهِ

وَمَا أَلَّا يَنْتَفِعُ عَمَّا تَمْلَئُونَ

﴿١١﴾

75. Njé ényin ha ro pe nwọn yio gba nyin gbó nigbati o je pe dajudaju apakan ninu wón ngbó ḥor Qlōhun, lèhinna nwòn a yi i pada, lèhin igbati o ba ti ye wòn, benni awòn na mò.

76. Nigbati nwòn ba pade awòn onigbagbó ododo nwòn a wipe: Awa gbagbó, nigbati o ba si ku awòn nikàn pèlu ara wòn, Nwòn a wipe: Şe è nba wòn sòrò nipa ohun ti Qlōhun ti şipaya fun nyin ni ki nwòn le fi ba nyin jiyan niwaju Oluwa nyin? È kò şe lakaye ni?

77. Nwòn kò ha mò pe Qlōhun mò ohun ti nwòn fi npamò ati ohun ti nwòn fihàn si gbangba.

78. O mbé ninu wòn ti nwòn je òpè ti nwòn kò mò Tirà bikoše agboso, nwòn kò si je nkankan, afi alaroso.

79. Nitorina egbe ni fun awòn èniti nfi ọwò wòn kò tira, lèhinna ti wòn sò pe: qdò Qlōhun ni eyi ti wa; ki wòn ba le ta a ni iye owo diè kan. Nitorina egbe ni fun wòn fun ohun ti ọwò wòn kò silè, egbe si ni fun wòn pèlu fun ohun ti wòn şe nişé.

80. Nwòn si sò pe: Ina kò le fowókan wa bikoše fun ọjò to ni onka kan. Sò pe: Ényin ha ti ri adeun kan gba lati qdò Qlōhun ni?

﴿أَفَقَطْمُعُونَ أَن يُؤْمِنُوكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ  
مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُخَرُّفُونَهُ.  
مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

وَإِذَا الَّتُّو الَّذِينَ أَمْوَالُهُمْ أَنْتَوْ إِذَا حَلَّا  
بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَنْحَدَثُوهُمْ يَكَادُ  
فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيَحْاجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ  
أَفَلَا يَعْقُلُونَ

﴿أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرِرُونَ  
وَمَا يَعْلَمُونَ﴾

وَمِنْهُمْ أُمِيَّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ  
إِلَّا أَمَانَ وَإِنَّهُمْ لَا يَظْهُرُونَ

﴿وَيَنِيلُ لِلَّذِينَ يَكُنُّ بَنِيَّهُمْ  
يَعْلَمُونَ هَذَا مِنْ عِنْدَ اللَّهِ لِيَشَاءُ وَإِنَّهُمْ  
تَمَنَّا فِي لَأْلَامِنَةٍ  
أَنْ يَدْعُوهُمْ وَيَنِيلُ لَهُمْ مَمَّا كَانُوا  
أَنْتَيْهُمْ وَيَنِيلُ لَهُمْ مَمَّا كَنْسُوا  
وَمَنْ يَنِيلُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

وَقَالُوا إِنَّمَا تَمَسَّنَا الْكِتَابُ إِلَّا أَنْ يَأْتِي  
مَعْذِلَةً فَلَمَّا أَتَتْهُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدَهُمْ فَلَمَّا  
يُنَزَّلَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمَّا نَفْلُونَ عَلَى اللَّهِ

Oloahun ki nyi adeun Rè pada. Tabi e nsø ohun ti ç kò mò mq Oloahun ni?

**81.** Beni, enikeni to ba şe işe ibi kan ti awon çş si yi ka, awon wonyi ero ina ni wøn, nwøn yio si ma gbe inu rè lailai.

**82.** Awon ti o je onigbagbo ododo to si nse rere, awon wonyi ero qgba idera ni wøn, nwøn yio si ma gbe inu rè lailai.

**83.** E tun şe iranti nigbati Awa gba adeun awon qmø Israila pe, e maşe ma sin (nkókan miran) bikoşe Oloahun (kanşoso), ki ç si mā şe rere si awon obi (nyin) mejëji ati awon ibatan (nyin) ati awon qmø-orukan ati awon talaka, ki ç si mā ba awon enia şorø rere, ki ç si mā kirun dede, ki ç si mā yan saka. Léhinna ç pëhinda ayafi diş ninu nyin, enyin si şeri.

**84.** E tun ranti nigbati a gba adeun nyin<sup>[1]</sup> pe ki ç maşe da ejø nyin silë beni ki ç ma si şe le ara nyin jade kuro ninu ile nyin; léhinna ç gba bę, enyin si jéri si i.

[1] Majemu ti a tøka si nihin ni eyiti annabi Muhammadu ba awon Yahudi şe nigbati o de Madina. Ninu iwe adeun yi awon Musulumi ati awon Yahudi ijø gba lati ma şe gbe ijà ko ara wøn ati lati ma dabo bo ara wøn kuro lqwø qta ode. Şugbon gegëbi ÿyah 85 ti wi, awon Yahudi gbehin lq padi pq mq awon Kuraişawa ti o gbe ogun ti Madina.

مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

بَلَىٰ مِنْ كُسْبَ سَيِّئَاتِهِ وَاحْتَطُ بِهِ  
حَطَّيْتَهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَلِيلُوْنَ ﴿٤١﴾

وَالَّذِينَ إِمْمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ  
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُوْنَ ﴿٤٢﴾

وَإِذَا حَذَّنَا مِيشَقَ بَنَىٰ إِسْرَئِيلَ لَا تَمْدُونَ  
إِلَّا اللَّهُ وَبِإِنْدِلِينَ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينَ وَقُولُولَ اللَّائِسِ  
مُحْسِنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِثْوَانَ الرَّكُوْنَةَ  
هُمْ تَوَلَّهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ  
وَأَشْعُمُ مَغْرُضُوكَ ﴿٤٣﴾

وَإِذَا حَذَّنَا مِيشَقَكُمْ لَا شَفَكُونَ وَمَا كُنْ  
وَلَا تُخْرِجُونَ أَفْسَكُمْ مِنْ دِيْرِكُمْ هُمْ  
أَفْرَرُهُمْ وَأَشْمَمُ تَشَهِّدُونَ ﴿٤٤﴾

**85.** Léhinna ényin yi na ni é npa ara nyin ti é si nle apakan ninu nyin jade kuro ninu ile wón, ti é se atiléhin (fun awon qta) le wón lori niti éşé atti abosi. (Şugbon) bi nwón ba wa ba nyin bi éru, ényin yio ra wón pada, nigbati o je pe, lile wón jade papa, a ti se e lëwó fun nyin. Se é wa gba apakan tira gbo, é si shaigbagbo si apakan? Kosi ésan kan fun éni to ba se eyi ninu nyin bikoše abuku ni igbesi aiye yi ati pe ni qojo ajinde a o da wón pada ló si inù iyà to le koko julò. Olóhun ki işe onigbagbe nipa ohun ti é nse.

**86.** Awon wónyi ni awon éniti o fi ɔrun ra aiye, nitorina, a ki yio mù iyà wón fuyé fun wón bë si ni a ki yio si ran wón lqwó.

**87.** Dajudaju Awa fun Musa ni Tirà na Awa si fi awon ojíṣe télep ara wón lèhin rè A si fun Isa ɔmó Mariyama ni alaye ɔró to han, a si fi émi mimó ran a lqwó<sup>[1]</sup>. O ha le je pe igbakigba ti ojíṣe kan ba wa ba nyin pélù ohun ti ókan nyin ko fë ni é o ma se igberaga? tobé ti ényin fi npe apakan ni opuró (ninu wón), ti é si npa apakan.

**88.** Nwón si wípe: Ebibo bo ókan wa. Békó, Olóhun ti şébi le

ثُمَّ أَنْتَ هَوَّلَاهُ تَقْتُلُوكُ أَنْفُسَكُمْ  
وَتُخْرِجُونَ فِرِيقًا مِّنْكُمْ مَّنْ دَيْكَرَهُمْ  
تَظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِإِلَيْهِمْ وَالْمُدْوَنُونَ  
وَإِنَّ يَأْتُكُمْ أَسْرَىٰ تُفَنَّدُهُمْ وَهُمْ وَحْدَهُمْ  
عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُؤُمُونَ بِعَيْنِ  
الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِعَيْنِ فَمَا جَرَأَهُ  
مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خَرَقَ  
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرَدُونَ إِلَيْكُمْ  
أَشَدَّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِعَنِّيْلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَشْرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْأَخْرَجَةِ  
فَلَا يُحْكَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَيَّنَا مِنْ  
بَعْدِهِ إِلْرُسُلِّ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  
الْبَيْتَ وَأَيَّدَنَا بِرُوحِ الْقَدْنِ أَفْكَمَ حَاجَاءَ كَمَّ  
رَسُولُ بَيْلَانَهُوَ أَنْفُسَكُمْ أَسْتَكْبِرُّمْ فَقَرِيْبًا  
كَذَبَّمْ وَفَرِيقًا لَّتَنْتَلُوكَ

وَقَالُوا أَقْلَوْنَا غُلْفَ بَلْ لَقَنْهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ

[1] Émi Mimó ti Al-Kurani ntóka si ni Malaika ti Olóhun ran si awon ojíṣe Rè.

won ni nitori aigbagbo won; nipa bayi, igbagbo won kere pupo.

فَقَبِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾

**89.** Nigbati Tirà kan de wa ba won lati qdø Qlohung ti o njéri si ohun ti o wa pèlu won, bëni nişaju won ti je èniti ntørø işegun lori awon èniti o je alaigbagbo, sugbon nigbati ohun ti won mò (ti won ti nreti) de wa ba won, nwon kò o. Nitorina, ibi Qlohung mbé lori awon alaigbagbo.

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كَتَبْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا  
مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ سَقَفْتُهُوْكَ عَلَى الَّذِينَ  
كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَاعْرَفُوا كَفُرُوا بِهِ  
فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِ ﴿٤﴾

**90.** Ibi ni ohun ti nwon fi èmi won ra, on ni pe won shaigbagbo si ohun ti Qlohung sòkalè niti ilara pe Qlohung so ore ajulø Rè kalè fun èniti o wu U ninu awon èrusin Rè, nwon fa ibinu lori ibinu, iya ti nrè ni silè si mbé fun awon alaigbagbo.

يُنَسِّكُمَا أَشَرَّ رُؤْبَاهُ إِنْفَسَهُمْ أَنْ يَكُنْفُرُوا  
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْنَاهُ أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءَهُوَ بِعَصْبَى  
عَلَى عَصَبٍ وَلِلْكُفَّارِ عَذَابٌ مُهِمَّثٌ ﴿٥﴾

**91.** Nigbati a ba si wi fun won pe è gba ohun ti Qlohung sòkalè gbo, nwon a wipe: Awa gba ohun ti a sòkalè funwa gbo. Nwon si kò ohun to wa lèhin rè, bë si ni on ni ododo to njéri si ohun ti mbé pèlu won. Wipe: Èhaše nigbana ti è fi nipa awon Annabi Qlohung nişaju bi ènyin ba je onigbagbo ododo?

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَلُوْ  
نُونَ إِنَّمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا  
وَرَأَهُمْ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا عَمِّهُمْ قُلْ فَلَمْ  
تَنْتَلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِنْ كُنْتُمْ  
مُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾

**92.** Ni dajudaju Annabi Musa mu idi-qrø ti o yanju wa ba nyin, lèhinna ni ènyin mu ogedengbe malu (ni oluwa) lèhin rè, ènyin si je alabosi.

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ  
لَمْ أَنْهَذْنُمُ الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ  
وَأَنَّسُمُ ظَلَمُونَ ﴿٧﴾

**93.** Atipe nigbati Awa şe majemu pəlu nyin ti A si gbe oke ga koja nyin; E gba ohun ti A fi fun yin mu şinşin ki e si gbə ḥorq. Nwọn wipe: Awa gbə, awa kò gba, (nipa bayi) a mu ọkan wọn mu ife ogedegbe malu yi nitori aigbagbə. Wipe: Ibi ni ohun ti igbagbə nyin nforo nyin si, bi ẹnyin ba je onigbagbə (ododo).

**94.** Wipe ti o ba şe pe ti nyin nikan ni ile ikéhin ti mbę ni ọdø Qloħun ti kosi ti awon enia kan nibę, nję e tørø iku ti e ba je olododo.

**95.** Nwọn ko ni tørø iku lailai nitori ohun ti ọwó wọn ti ti şiwaju, Qloħun si mə awon alabosi<sup>[1]</sup>.

**96.** Dajudaju iwə yio ri pe awon ni oni ojukokoro ju gbogbo enia lə fun nkan aiye ati ju awon aborişa lə, ɔkɔkan ninu wọn ni o nfę ki A fun wọn ni ęgbərun ọdun lo ni aiye, bę ki A fun wọn ni ęmi lo kò le mu wọn bə ninu iya, Qloħun ni Oluri gbogbo ohun ti wọn nṣe<sup>[2]</sup>.

**97.** Wipe: Eniyiowu ti o ba je qta

[1] Nwọn ko tørø iku nitori wọn mə ohun ti awon ti ti şiwaju ni işe buburu.

[2] Ohun ti awon Yahudi fi fəran aiye yi ju ɔrun lə ni pe nwọn gba pe ɔjə a jinde mbę, şugbən nwọn ko şe işe rere, ेru ɔrun si mba wọn; Yatə si awon keferi alaigbagbə ti ko gba ɔjə ajinde gbə, ki nwọn je, ki nwọn mu nikani ni nwọn mə.

وَإِذَا خَدَنَا مِثْقَلُكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ  
الظُّرُورَ حَذَّرُوا مَاءً أَتَيْنَاهُ كُمْ بِمُؤْرَجٍ  
وَأَسْمَعْنَا فَالْأُسْمَاعَ نَعَصِينَا وَأَشْرَبُوا  
فِي قُلُوبِهِمْ الْعَجْلَ بِكُفْرِهِمْ  
فَلَمْ يَنْتَهُوا مِمَّا أَمْرَرْنَا كُمْ بِهِ  
إِيمَانَكُمْ إِنَّ كُمْ مُّؤْمِنُونَ ٢٣

فَلَمْ يَأْتِكُمْ لَكُمْ الَّذِي أَنْتُمْ تَرْغَبُونَ عَنْهُ  
حَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ  
إِنْ كُمْ كَفِيفُونَ ٤٤

وَلَمْ يَتَمَمُّوا أَبْدًا مَا قَاتَلُوكُمْ<sup>٩</sup>  
وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعِلْمُ بِمَا الظَّالِمُونَ

وَلَمَّا حَدَّهُمْ أَحَرَصَ النَّاسُ عَلَى حَيَاةٍ وَمَنْ  
الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْمَ أَحْدَهُمْ لَزِيمَرَأْلَفَ  
سَنَتٍ وَمَا هُوَ بِمُرْجِحٍ وَمِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَذَّرَ  
وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١١

فَلَمْ يَأْتِكُمْ عَذَّابٌ لِّجَنَاحِيلٍ فَإِنَّمَا زَلَّهُ

Jibrila nitoripe dajudaju on na ni o so o kalè si ọkan rẹ pẹlu aşe Olóhun, eyi ti o jeri si ohun ti o şiwaju rẹ, amona ati iro idunnu fun awọn onigbagbọ.

**98.** Eníyiowu ti o je ọta Olóhun ati awọn malaika Rẹ, ati awọn ojışe Rẹ ati Jibrila ati Mikaila, njé dajudaju Olóhun je ọta awọn alaigbagbọ<sup>[1]</sup>.

**99.** Dajudaju Awa ti so awọn âyah ti o yanju kalè fun o, eñikan ki yio şe aigbagbọ si i, bikoše awọn ẹleşẹ.

**100.** O ha le je pe nigbakigba ti nwọn ba şe majemu kan, ijo kan ninu wọn a pa a ti, şugbọn ọpolopọ wọn kò ni igbagbọ.

**101.** Ati nigbati ojışe kan lati ọdq Olóhun de wa ba wọn ti o njeri si ohun ti nbẹ pẹlu wọn, apakan awọn ti a ti fun ni tirà, gbe tirà Olóhun si eñin wọn bi eñipe nwọn kò mo.

**102.** Nwọn si tẹlẹ ohun ti awọn eṣu ka mo ijọba Sulaimana ni eṣe, bení Sulaimana ko şe aigbagbọ, şugbọn awọn eṣu ni nwọn şe aigbagbọ, ti nwọn nkọ awọn enia ni idan ati ohun ti a sòkalè fun

عَلَى قَبْلِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ  
يَدَيْهِ وَهُدًى وَشَرِيعَةٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ

(١٩)

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلِكِكَتِيهِ  
وَرَسُولِهِ وَجَبَرِيلَ وَمِيكَلَ  
فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكُفَّارِينَ

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آياتٍ بِيَنْتَهِ  
وَمَا يَكُفُّرُهَا إِلَّا الظَّاهِرُونَ

(٢٠)

أَوْكُلَمَاعَهُدُوا عَهْدَ اَنَّذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ  
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَتَّقْبَلُونَ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا مَنْعِنَدُ اللَّهِ  
مُصَدِّقٌ لِّمَا عَاهَمُهُمْ بَشَدَرِيَّةٌ مِّنَ الْأَيَّالِ  
أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابُ اللَّهِ وَرَاءَ  
ظُهُورِهِمْ كَانُوكُمْ لَا يَعْلَمُونَ

(٢١)

وَاتَّبَعُوا مَا تَنَاهَى اللَّهُ عَنِ الْشَّيْطَانِ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ  
وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ أَشَيَّطَهُ  
كَفَرُوا بِعِلْمِهِنَّ أَنَّاسٌ أَسِخْرُوهُمْ وَمَا أُنْزَلَ  
عَلَى الْمَلَكِ كَيْنِيْسَابِيلَ هَرْبُوتَ وَمَرْوَتَ  
وَمَا يَعْلَمُ إِنَّمَا مِنْ أَحَدٍ حَقَّ يَقُولُوا إِنَّمَا حَنْ

[1] Gbogbo awọn ti o ba kọ awọn Malaika Olóhun bi ti awọn Yahudi fi ọwo wọn mu Olóhun ni ọta ni, nitorí eñiti o ba da oju ọta kọ eñiti o ba ju u lọ nwa iya fun ara rẹ ni.

malaika mejēji Haruta ati Maruta ni (ilu) Babilia atipe nwọn ko ni fi ko ẹnikéni ayafi ki awọn mejēji wipe, adanwo ni awa jẹ maše ẹ se aigbagbọ. Sugbọn nwọn nkọ lati odò awọn mejēji ohun ti nwọn ma nfi ẹ se ipinya larin ọkọ ati aya rẹ. Béni nwọn kò le fi ẹ se ipalara fun ẹnikankan ayafi pèlu aşe Olóhun; nwọn nkọ awọn ohun ti o ma ẹ se ipalara fun wọn ti kò ni ẹ se wọn ni anfani, dajudaju nwọn si mò pe ẹniti o ba ra a ki yio si ipin (rere) kan fun u ni ojọ ikéhin ibi si ni ohun ti nwọn ta ẹmi wọn fun bi o ba ẹ se pe nwọn mò ni<sup>[1]</sup>.

**103.** Bi o ba ẹ se pe nwọn gbagbọ ti nwọn si bẹru Olóhun, dajudaju ẹsan ti nwọn ko ba ri gba lati ọdò Olóhun iba dara julò, ti o ba ẹ se pe nwọn mò ni.

**104.** Ènyin onigbagbọ, ẹ maše pe ede «Raina» ẹ ba sọ pe «Unsurna» ki ẹ si tẹ'ti silè, Ìyà ẹléta ero si mbè fun awọn ti ko gbagbọ.

**105.** Awọn ti nṣe aigbagbọ ninu

[1] Awọn Yahudi bẹrẹ ibajé ti nwọn ẹ se ni asiko ijọba Sulaimana si Annabi Muhammadu, gégébi ọlọtè nwọn ni ami kan ti wọn nlo bi ti alawo ti nwọn fi da ijọba annabi Sulaimana ru, irufé ọtè bayi ni nwọn di si Annabi Muhammadu nipa ki nwọn ni awọn gbagbọ ki nwọn ma gbagbọ, nwọn si bọ si arin awọn onigbagbọ lati se jamba fun awọn onigbagbọ ododo. Olóhun ni gégébi awọn ọlọtè igba annabi sulaimana ti pofo işe wọn bẹni awọn ti o ndi otè si Annabi Muhammadu yio pofo işe wọn.

فَتَنَهَىٰ فِلَاتِكْرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا  
مَا يُقْرِئُونَ كَبِيرٌ بِهِ بَيْنَ الْمَرْدَ وَرَوْمَدَ وَمَا هُمْ  
يُضَارِّينَ بِهِ مَنْ أَحَدٌ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ  
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَصْرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ  
وَلَمَّا دَعَ عَلِمُوا لِمَ آشَرْتُهُمْ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ  
مِنْ حَلْقٍ وَلِسْكٍ مَا شَرَّفَ أَيْهَهُ  
أَنْفُسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِمَّا نَأَمُوا وَلَأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا  
عِنْدِ اللَّهِ حَيْثُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

يَأْتِيهَا الَّذِينَ إِمَّا نَأَمُوا لَا تَقُولُوا أَرَعُوكُمْ  
وَقُولُوا انظُرُنَا وَاسْمَعُونَا وَلَا كُفَّارِينَ  
عَذَابَ أَلِيمٍ

مَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

awon oni tirà ati awon aborişa kò fè ki òre kan ti ọdò Olóhun wa ba nyin, şugbon Olóhun a ma şa ni eşti O ba fè fun anu Rè, Olóhun si jé Olóre ti o tobi.

**106.** Ohunkohun ti a ba pare ninu ãyah kan tabi ti a ba sò di igbagbe, Awa yio mu eyiti o dara ju u lò wa tabi iru rè na, abi iwò kò ha mòdaju pe Olóhun ni agbara lori gbogbo nkan.

**107.** Abi iwò kò ha mò pe dajudaju ti Olóhun ni ikapa sanma ati ilè işe, bëni kò si oluşo kan fun nyin laijé Olóhun bë si ni kò si oluranlòwò.

**108.** Abi ñyin fè lati ma bere ọrò lòwò ojìş nyin ni gégébi nwòn ti bere ọrò lòwò Musa nişiwaju, eşti o ba şe paşiparò aigbagbò dipò igbagbò, nitorina dajudaju o ti şina oju ɔna tara.

**109.** Opolopò awon oni tirà ni nñfè lati da nyin pada si aigbagbò lèhin igbagbò nyin, ni ti egan lati ọdò wòn wa, lèhin igbati otitò ti han si wòn; nitorina şe aforiji fun wòn ki o gunri kuro ni ọdò wòn titi Olóhun yio fi mu aşe Rè wa dajudaju Olóhun ni agbara lori gbogbo nkan.

**110.** E mā kirun ni akoko ki ẹ si ma mu saka wa, ohunkohun ti ẹ ba

وَلَا أَنْتَ كَيْنَانْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِرَحْمَتِهِ  
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

﴿١٥﴾ مَنْ نَسَخَ مِنْ إِعْيَادِهِ أُوْنِسِهَا نَأْتِ بِعَيْرٍ  
مِنْهَا أَوْ مِنْهُكَ الْأَمْرَ شَاءَمْ أَنَّ اللَّهَ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ  
وَلَا نَصِيرٌ

أَمْ يُرِيدُونَ أَنْ تَنْقُلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سِيلَ  
مُؤْسَىٰ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلْ إِلَّا كُفَّارُ الْإِيمَانِ  
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ الْتَّكِبِيلُ

وَذَكَرَيْشِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ  
لَوْرِدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُثُرًا حَسَدًا  
مِنْ عَنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَ لَهُمْ  
الْحُقُوقُ فَأَغْفُرُ أَوْ أَصْنَعُهُ وَاحْتَيْأْنِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ  
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَأَقْبِلُوا الصَّلَاةَ وَإِذُوا أَرَكَدَهُ

ti şiwaju funra nyin ni rere ç o ba ni ọdọ Olóhun, dajudaju Olóhun mọ ohun ti ç nṣe nişे.

**111.** Nwọn si wipe ἑnikan ko ni le wọ ogba-idéra ayafi ἑniti o ba je Yahudi abi Nasara; eyi ni ero ọkàn wọn. Sópe: E mu idì ọrọ nyin wa ti ἑnyin ba je olododo.

**112.** Béni ἑniti o ba juraré silè fun Olóhun ti o si je aşe rere, ἑsan işe rẹ mbẹ fun u lọdq Oluwa rẹ, bẹ si ni kò ni si ibéru fun wọn, nwọn ko si ni banuje.

**113.** Awọn Yahudi si wipe awọn Nasara kòsi lori kinikan, awọn Nasara na sópe awọn Yahudi kòsi lori kinikan, béni awọn lo nke tirà; bayi ni awọn ti ko mọ nkankan yio ma sọ iru ọrọ wọn yi, şugbon Olóhun yio şe idajọ ni arin wọn ni ọjọ ajinde nipa ohun ti wọn yapa ἑnu si.

**114.** Bẹ si ni kò si ἑnikan to şe abosi ju ἑniti o kodi masalasi ti Olóhun ti ko je ki wọn ma daruko Rẹ ninu rẹ ti o si nwa ọna lati lọ wo ile na, awọn elewonyi kò tọ fun wọn lati ma wọ bẹ ayafi pẹlu ibéru, ti wọn ni abuku ni aiye ni bi, iya ti o tobi si wa fun wọn loran<sup>[1]</sup>.

وَمَا لَفِدُوا لِأَنفُسِكُمْ مَنْ حَيَّ تَحْمِدُهُ عِنْدَ اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>[11]</sup>

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا  
أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانَتِهِمْ قُلْ هَاتُوا  
بُرْهَنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ<sup>[12]</sup>

بَلِّ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَمُؤْمِنُونَ فَلَهُ  
أَمْرُهُ عِنْدَهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ بَخَرَبُونَ<sup>[13]</sup>

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ  
وَقَالَتِ الْأَصْرَارِ لَيْسَ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ  
يُشْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ  
مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ<sup>[14]</sup>

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ يَعْرِضُ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يَدْكُرَ فِيهَا  
أَسْمَهُ وَسَعَى فِي حَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ  
أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا حَاجَيْنِكَ لَهُمْ فِي الْأُذْنِيَا  
خَزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ<sup>[15]</sup>

[1] Aya yi şokalę ni iro nipa awọn Romu ti wọn lọ jagun ni Baitu Al-Makidisi, abi nipa awọn qşşbę ti nwọn kodi Annabi, ninu ọdun ti wọn =

**115.** Ti Qlohuñ ni ibuyoñ õrùn ati ibuwó rè, nitorina ibikibi ti è ba da oju nyin kó ibé na ni adojuko Qlohuñ, dajudaju Qlohuñ ni Olugbaye, Onimimo.

**116.** Nwón wipe: Qlohuñ bimó; mimó ni fun U, békó, ti Rè ni ohun ti o wa ni sanma ati ilé işe, gbogbo nkan lo ntériba fun U.

**117.** Eléda sanma ati ilé ni, ti O ba ti pinnu qoró kan, yio sò fun u pe ki o je bé, yio si je bé.

**118.** Bé si ni awon ti ko mó kinikan sòpe: Eše ti Qlohuñ kò ba wa sò qoró tabi ki áyah kan wa ba wa; bayi ni awon ti o ti şiwaju wón ti sò iru qoró wón yi, qakan wón jora wón, dajudaju A ti şe alaye awon áyah na fun awon éniti o mó amódaju.

**119.** Dajudaju Awa ni A ran o nişé pélú ododo, ni oniro-idunnu ni olukiló, bëni a kò ni bi o lere nipa awon éni ina.

**120.** Awon Yahudi ati Nasara kò ni le yonu si o ayafi ti o ba téle isin wón, sòpe, imóna ti Qlohuñ ni imóna, atipe ti o ba fi téle ifé inu wón lèhin igbati ohun ti o wa ba o

وَلِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُؤْلُوْأَ فَتْمَةً وَجْهَ اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ۝

وَقَالُوا أَنَّحَدَ اللَّهُ وَلَدًا سَيْنَحَنَّهُ بَلْ لَهُ  
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ لَهُ فَقَنِيْنُونَ ۝

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَإِذَا فَحَنَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مَنْ فَيَكُونُ ۝

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ  
أَوْتَأْتَنَا إِيمَانَهُ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ  
مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلُهُمْ قَوْلِهِمْ شَكَرَهُمْ فَلَوْيَهُمْ  
قَدْ بَيَنَنَا لِأَكِيدَ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ يَشِيرًا وَنَذِيرًا  
وَلَا تُشْكِلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ۝

وَلَنْ تَرْعَى عَنْكَ الْبَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّىٰ تَتَبَعَ  
مِلَّتُهُمْ قَلِيلٌ كُلُّ إِنْكَ هُذِيَ اللَّهُ هُوَ الْمَهْدِيُّ وَلَيُنِ  
أَتَبْعَتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَ لَكَ مِنْ أَعْلَمِ  
مَالِكٍ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

= jagun Udaibiya, nwón kó fun u pe ki o wó ile Qlohuñ, awon wónyi ko tó fun wón pe ki wón wó bé ayafi pélú ipaya, eyi je aşe pe ki è da éru ba wón ki nwón ma le wó ibé bi ko je pélú ibéru.

ninu imò ti de, kò ni si fun ọ lati ọdọ Ołohun alaféhinti kan bení kò ni si oluranlqwó.

**121.** Awọn ti a fun ni tirà na nwọn ke e ni kike totò, awọn wonyi ni nwọn gbagbò, şugbòn awọn ti o ba şe aigbagbò awọn wonyi ni ẹni òfò.

**122.** Mo pe ẹnyin qomq Israile! ẹ şe iranti iké Mi ti Mo şe fun nyin dajudaju Emi ni Mo da nyin lqla ju awọn edata yoku lò.

**123.** Ki ẹ si bēru ojò kan, ti ẹmi kan ko ni le şe anfani kan fun ẹmi keji, ti a ko si ni gba ãrò kan lqwò rè, ti ipé şişe ko si ni ş'anfani fun u, bę si ni a ki yio ran wọn lqwò.

**124.** Nigbati Oluwa rè si dan Ibrahimia wò pèlu awọn ọrò kan<sup>[1]</sup>, o si mu wọn şe. On Ołohun si wipe: Emi yio şe ọ ni aşıwaju fun awọn enia. On (Ibrahimia) wipe: Ati ninu awọn aròmòdòmò mi. On (Ołohun) wipe: Adehun Mi kò ni kan awọn alabosi.

**125.** Nigbati Awa si şe Ile na ni ibusimi fun awọn enia ati aye

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتَلَوَّهُ حَتَّىٰ يَلَوِّهُ  
أُولَئِكَ نُؤْمِنُ بِهِ وَمَن يُكَفِّرْهُ فَأُولَئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ

يَقُولُ إِنَّمَا يَنْهَا بِإِذْكُرْنَا فِيمَا  
وَأَنْعَنَّتْ عَيْنَكُمْ  
وَأَنْقَبْنَا شَمْلُوْرَكُمْ عَلَى الْأَمْلَامِ

وَأَنْقَعْنَا يَوْمًا لَا تَخْرُجُ نَفْسٌ عَنْ شَيْءٍ كَوْلَادَةً  
يُقْبَلُ مِنْهَا دُلْ وَلَا تَنْفَعُهَا سَفَعَةٌ وَلَا مُمْ  
يُصْرُونَ

وَإِذَا أَنْتَلَنَ إِلَيْهِمْ رَبِّهِ بِكَلْمَتَهُ فَأَنْتَهُمْ قَالُوا إِنَّ  
جَاءَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ إِمَامًا فَأَقْاتُلُوهُ وَمَنْ ذُرِّيَّتِي فَأَلَّا  
يَنْأَلْ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَكَابِيْلَ لِلنَّاسِ وَأَمَّا وَأَنْجَدُوا

[1] Awọn ọrò kan ninu ãyah yi duro fun awọn ofin Ołohun, qranyan Rè, awọn asé Rè to pa lasé. Apa kan ninu awọn Onitafusiru Sò wipe: Ogoji ofin ni Oluwa fise Idanwo fun anabi Ibrahimia, mewa nbę ni: Suratu Barahat, ãyah «112» mewa nbę ni Suratul Ahzab: ãyah «35», mewa nbę ni Suratul Muminina, ãyah «1-9» mewa nbę ni Suratul Ma'ariji ãyah «22-34». Awọn miran tun sò ọrò miran yato si eyi.

ifaiyabalé: E mu ibudo<sup>[1]</sup> Ibrahima gęębę ibukirun. Awa si şe majęmu pęlu Ibrahima ati Ismaila pe: E şe ile Mi ni mimo fun awon ti o nyi ile na ka, ati awon to duro si inu ile naa ti anpe ni (I'TIKAF) ati awon ti awon ntę ti nwon si nforibalé.

**126.** Nigbati Ibrahima si wipe: Oluwa şe ilu yi ni ilu ifayabalé, ki O si pese awon eso fun awon enia inu rę ęniti o ba gba Qłohun gbo ninu wọn ati qjo ikéhin. On (Qłohun) wipe: Ati ęniti o ba şai gbagbę, Emi yio fun ni igbadun fun igba dię, lęhin igbana, Emi yio dari rę sibi iya ina, apadasi buburu ni eyi ję.

**127.** Nigbati Ibrahima ati Ismaila si gbe ipilę ile na duro, (nwon wipe) Oluwa wa gba a lęwę wa, dajudaju Iwę ni Olugbę, Olumò.

**128.** Oluwa wa! ki O si şe awa mejëji ni Musulumi fun Q ati ninu aromodomq wa ni iran ti yio ję Musulumi fun Q, ki o si fi ilana ęsin wa han wa, ki O gba ironupiwada wa. Dajudaju Irę ni Olugba ironupiwada, Alanu.

مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصْلِّي وَعَهْدَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ  
وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَرَ أَتِيقَ لِلظَّاهِرِ  
وَالْعَكِفَنَ وَأَرْكَعَ السُّجُودَ

وَإِذَا كَلَّ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ الْجَنَّاتِ هَذَا بَلَاءً أَمْنًا وَأَرْزَقَ  
أَهْلَهُ مِنَ الْمُرَبَّتِ مِنْ مَنْ مَنَّهُ بِاللَّهِ وَلَيَوْمَ الْآخِرِ  
قَالَ وَمَنْ يَكْرِهُ فَأُتْبِعْهُ قَبِيلَةً أَنْ شَطَرَهُ  
إِلَى عَدَابِ النَّارِ وَنِسَى الْمَحِيدَ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ  
وَإِسْمَاعِيلُ رَبِّنَا نَقْبَلَ  
مِنَ إِنَّكَ أَنْتَ أَسْمَيْعُ الْعَلِيُّسُ

رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمَنْ دُرِّيَنَا أَمَّةً  
مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرْنَا نَاسِكَا وَشَعْلَنَا  
إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّجِيمُ

[1] Makama Ibrahima ni aye kan ni Kaaba fun ibukirun. Eyi duro fun ile Qłohun na papa (Kaaba). Idi eyi ni gbogbo Musulumi aiye şe nkoyu si ile Qłohun na ti nwon ba nkirun.

**129.** Oluwa wa! gbe dide ninu won ojişे kan lara won ti yio ma ke awon ayah Rę fun won ti yio si ma kę won ni tira na ati ḥqbон ijilę, ti yio si ma sę won di mimo. Dajudaju Irę ni Alagbara, Olqobon.

**130.** Tani ḥniti yio kę isin Ibrahima silę, aſi ḥniti ogo ḥemi ara rę si. Dajudaju Aşa a leşa ni aiye ati ni ḥrun, on yio si wa ninu awon ḥni mimo.

**131.** Nigbati Oluwa rę wi fun u pe: Ju ara rę silę, o si dahun wipe: Emi ju ara mi silę fun Oluwa gbogbo ḥda.

**132.** Ibrahima si sę asotelę rę fun awon ḥmę rę; ati Yakuba na pəlu. (O wipe) ḥnyin ḥmę mi, dajudaju Olqahun ti şa isin na leşa fun nyin, nitorina ḥ maşe ku ayafi kię je Musulumi<sup>[1]</sup>.

**133.** Nję ḥnyin ha wa nibę nigbati iku de ba Yakuba ti o sę fun awon ḥmę rę pe: Kini ḥnyin yio ma sin lehin mi? Nwọn dahun

رَبَّنَا وَأَنْعَثْتُ فِيهِمْ رَوْلًا مِنْهُمْ يَتَلَوَّعُونَ  
إِنَّكَ وَيَعْلَمُهُمْ أَنْكِتَبْ وَالْحِكْمَةَ  
وَيُرِكِّبُهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مَلَأَ إِنْرَاهِمَ لِأَمْنَ سَفَرَةَ  
نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَضْطَبَنَتْهُ فِي الدُّنْيَا  
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمَنِ الْصَّالِحِينَ

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلَمَ  
قَالَ أَسْلَمَتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

وَوَصَّى بِهَا إِنْرَاهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ بَنِيَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
أَضْطَفَنِي لَكُمُ الَّذِينَ فَلَمْ تُمُونُ إِلَّا  
وَأَنْشَأْتُ مُسْلِمِينَ

أَنْ كُنْتُمْ شُهَدَاءً إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ  
قَالَ لِبَنِيهِ مَا أَعْبُدُونَ مَنْ بَعْدِي فَالْأُنْبِيَّدُ  
إِلَهَكَ وَإِلَهَهُ مَا أَبْلَيْكَ إِنْرَاهِمُ وَإِسْمَاعِيلُ

[1] «Ἐ maşe ku ayafi ki ḥ je Musulumi» — Itumę eyi ni pe fun gbogbo Musulumi, a şa ḥsin Islam leşa. Şugbon pe a gba Islam ḥeşebi isin atipe a je Musulumi ko to, ayafi ki o şe pe a ntélé ofin ati eto Islam ni igbesi aiye wa, ki a si ma gbe igbesi aiye Musulumi ododo ki iku to de ba wa. İşe şise ni nję Musulumi, ki işe jiję Musulumi lęnu lasan, Nigbakiba ti ife wa ba fori sę ife ofin Olqahun ki a ju ife ti wa silę, ki a tèle ti Olqahun, eyi ni nję pe a ju ara wa silę fun Olqahun, ti itumę rę nję Musulumi ni ede Larubawa.

pe: Awa yio ma sin Qloahun rē ati Qloahun awon baba rē Ibrahima Ismaila ati Ishaka, Qloahun kanşoşo, awa yio jē Musulumi (eniti o ju ara rē silē) fun U.

**134.** Ijo kan ni awon wonyi ti nwọn ti rekọja, ti won ni ere işe won, ti nyin si ni ere işe nyin. A ko si ni bi nyin lere ohun ti awon şe nişé.

**135.** Nwọn si wipe: E jē Yahudi tabi Nasara ki enyin le wa ni qna tara. Sō fun nwòn pe: Békó! (awa tèle) eşin Ibrahima, eniti o duro dede, ti ko si ninu awon ti nwòn da nkan pō mō Qloahun.

**136.** E wipe: Awa gba Qloahun gbō, ati ohun ti a sō kalè fun wa ati ohun ti a sòkalè fun Ibrahima, Ismaila, Ishaka, Yakuba ati awon aròmòdòmò; ati ohun ti afi fun Musa ati ti Issa ati ohun ti afi fun awon Annabi lati qdō Qloahun won<sup>[1]</sup>, awa ko ya ɔkankan sotq ninu won awa si jē Musulumi (eniti o ju ara silē fun U).

**137.** Nitorina bi awon ba gba<sup>[2]</sup>

[1] Awa ki ya ɔkankan sotq ninu awon ojiş tabi Annabi Qloahun. Eyi ni o mu isin Islam tayo gbogbo awon isin iyoku nipa pe o kó ni lati gba gbogbo awon ojiş tabi Annabi Qloahun gbō ati gbogbo isin ti o wa laiye ayafi ohun ti awon edata fi kun isin ti ki işe isin ni bi o ti wa lati qdō Qloahun.

[2] Ohun ti Musulumi gbagbō niyi: Qloahun kanşoşo ni o wa, On ni o si ran awon ojiş tabi Annabi wa si aiye lati kó awon edata ni ife Rē, ni ohun ti awon edata yio şe ti nwòn yio wa loju qna tara ti nwòn yio le =

وَإِنْحَقَ إِلَهًا وَجْدًا وَخَنْعَنَ لَهُ مُسْلِمُونَ

١٧٣  
تِلْكَ أُمَّةٌ فَدَخَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَمْ  
مَا كَسَبْتُمْ وَلَا شَرُّلُونَ عَنَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

وَقَالُوا كُنُوا هُوَدًا أَوْ زَصَارِئَ تَهْتَدُوا  
فُلْ بَلْ مَلَهٌ إِنَّهُمْ حَنِيقَاتٌ  
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

فُلُومَا، أَمَّا بَلْهُ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ إِلَى  
إِنَّهُمْ وَإِنْسَعِيلَ وَإِنْحَقَ وَيَغْوِي  
وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا  
أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تَنْرِقُ بَيْنَ أَهْدِ  
مِنْهُمْ وَخَنْعَنَ لَهُ مُسْلِمُونَ

فَإِنْ إِنْمَائُوا بِمِثْلِ مَا إِنْمَائُتُمْ يَهُ، فَقَدِ اهْتَدَوْا

ohun ti ẹ gbagbo gbọ dajudaju nwọn wa ninu ọna tara, ʂugbọn ti nwọn ba şeri, awọn ni nwọn wa ninu iyapa. Nitorina Qlöhun yio to ọ lori wọn. On Qlöhun ni Olugbọ, Olumọ.

**138.** Ireró ti Qlöhun niyi! Tani ẹniti o dara ninu riréni laro to Qlöhun. Qlöhun ni awa nsin.

**139.** Ẹ wipe: Ẹnyin yio haba wa jiiyan nipa Qlöhun? Şe On ni Oluwa wa ati Oluwa nyin. Ti awa ni işe wa. Ti ẹnyin si ni işe ti nyin. Awa ni olufòkansin fun U.

**140.** Tabi ẹnyin nsọ wipe: Dajudaju Ibrahima ati Ismaila ati Ishaka ati Yakuba ati awọn aròmòdòmọ je Yahudi abi Nasara? Sọ wipe: Ẹnyin ni ẹ ha ju ni imọ tabi Qlöhun? Tani ha şe abosi ju ẹniti o fi ẹri ti o mbẹ lqdọ rẹ lati ọdq Qlöhun pamọ lọ? Qlöhun ko nigbagbe ohun ti ẹnyin nṣe.

**141.** Ijo kan ni awọn wonyi ti wọn ti rekoya. Ti wọn ni ere işe wọn. Ti nyin si ni ere işe nyin. A

= jere aiye ati ọrun. A nfi awọn ẹkọ isin wonyi kọ wọn lati iran de iran gęgębi oye ati imọ wọn ba ti to. Awọn ẹkọ isin wonyi de opin ni asiko Mohammad Ki ikę Oluwa ati ọla Rę ki o ma ba a Qlöhun si sọ orukọ isin na ti awọn ojişẹ ti fi nkọ ni lati igba ti aiye ti şe ni Islam. Ni asiko ti Annabi Muhammad (Suratu V. aya 3). Ni kukuru ohun ti Musulumi gbagbo jasi bayi: Qlöhun kan, isin kan, awọn ojişẹ Qlöhun kan ni apapọ wọn ati awọn ẹda kan ni apapọ wọn.

وَإِنْ لَوْلَأْفَإِنَّا هُمْ فِي شَقَاقٍ فَسَيَكْبِرُوكُمْ  
اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْكَلِيمُ

صَنْبَعَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَخْسَنُ مِنْ اللَّهِ صَبَعَةً  
وَخَنْعَلُهُ اللَّهُ عَبِيدُونَ

قُلْ أَتَحَاجُجُنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ بَيْنَ رِبْكُمْ وَلَا  
أَغْنَيْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَلَخَنْعُلُهُمُ الْمُعْلَصُونَ

أَذْنَقُولُونَ إِنَّا إِزْهَدَوْ إِنْسَعِيلَ وَإِنْسَحَقَ  
وَيَقْنُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا وَصَسْرَاءُ  
قُلْ مَأْتُمْ أَعْلَمُ أَمْلَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مَنْ كَتَمَ  
شَهَدَةَ عِنْدَهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ  
يُعَنِّفُ عَمَّا تَعْمَلُونَ

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَبَتْ وَلَكُمْ  
مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنْسِتُونَ عَمَّا كَانُوا

يَعْمَلُونَ

kò si ni bi nyin lere ohun ti nwọn  
ṣe niṣe.

**142.** Awọn omugò ti nbę larin awọn enia yiomā wipe: Kini yi won pada kuro ni ibukojusi won<sup>[1]</sup>, ti nwọn ti wà télè? Wipe: Ti Qłohun ni ibuyo ati ibuwø orun, On a mā tø s'ona ḥenitı On ba fę lę si qna tāra na.

**143.** Bayi gān ni Awa si şe nyin ni ijo ti o şe dēde<sup>[2]</sup>, nitori ki ę le je ḥeleri fun awọn enia na ati ki ojiş le je ḥeleri ḥenyin na, A kò si şe ibukojusi ti ę wa ni nkankan bi-kòşe ki Awa le mo ḥenitı o tèle ojiş na yatø si ḥenitı o pehinda lori gigirisę rę, dajudaju o je ohun ti o şoro, ayafi fun awọn ḥenitı Qłohun ti tø s'ona. Qłohun ki yio si fi igbagbø nyin<sup>[3]</sup> rare; dajudaju Qłohun je Oninu-ire ati Alanu si awọn enia.

سَيَقُولُ الْأَسْفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَنْ فِلَدَهُمْ أَتَيْ كَأْوَاعِنَاهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرُقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُوْنُوا شَهِدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَيْنَكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ أَتَيْ كَنْتَ عَيْنَهَا إِلَّا لِتَعْلَمَ مَنْ يَتَبَعُ الرَّسُولَ وَمَنْ يَنْقِلِبُ عَلَى عَقْبِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ لِكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى اللَّهِ هَذِهِ أَنَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُضْعِفُ إِلَيْنَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

[1] Qrø ti a pe ni ibukojusi yi ni Qiblah, ibi ti awọn Musulumi ndojukø nigbatı nwọn ba nkirun. Iyipada ibukojusi ti awọn alaigbagbø ntøka si ni eyiti o şelę nigbatı awọn Musulumi de Mędina lęhin ǫdun kan ti wøn ti kuro ni Mękka. A ni lati kiyesi i pe nigbatı Annabi wa ni Mękka on a ma dojukø ǫkankan mɔsalasi ti mbę ni Jerusalem ti a mpe ni Baitul-Makdis, şugbøn nigbatı o de Mędina nibi ti awọn Yewudi ni agbara; Qłohun paşę fun u ki o ma dojukø ǫkankan mɔşalaşı abiyi na ti mbę ni Mękka ati pe ibę ni yio ma je Qiblah rę ati ti awọn ɔmø ęchin rę nibikibi ti nwọn le wa.

[2] «Wasat» ni a tunmø rę si dēde ninu āyah yi nitoripe awọn Musulumi ni ijo ti o şe dēde niwaju Qłohun. «Wasat» ma tun nję ohun ti o wa lärin ti ko ya si otun ti ko ya si osi. Nipa fifi Kaaba şe Qiblah fun awọn Musulumi, Qłohun fi han pe awọn ni ijo na ti Ibraheem ti gbadura fun, awọn si ni yio jogun ibukun ti Qłohun şe ileri rę fun Ibraheem.

[3] Awọn oni-tafsiri miran ntumø «igbagbø yin» ti o wa nibiyi si «irun yin», eyiti ę ti nki nigbatı ę ndojukø Baitul Makdis ni Jerusalem.

**144.** Nitotq, Awa ri yiyi ti o nyi oju rē si sanmq<sup>[1]</sup>, nitorina Awa yio mu q yipada si ibukojusi kan ti yio dun mq q ninu; mā kq oju rē si agbegbe M̄osalasi Abiyi na, ni ibikibi ti q̄ ba si wa, q̄ ma kq awon oju nyin si agbegbe rē, dajudaju awon ti A si fun ni tirà na m̄o daju pe ododo ni i şe lati qd̄ Oluwa w̄on, Ql̄ohun ko si j̄e Onigbagbe nipa ohun ti nw̄on n̄se.

**145.** Kó-dà, bi o ba tilē nm̄u âyah kókan tq̄ awon ti â fun ni tirà na l̄, nw̄on ki yio t̄ele ibukojusi rē, iw̄o pâpa ki yio t̄ele ibukojusi w̄on, apakan w̄on ki yio si t̄ele ibukojusi apakan<sup>[2]</sup>, bi o ba si t̄ele ife-inu w̄on, l̄ehin imq̄ ti o ti de wa baq̄, dajudaju iw̄o nigbana yio ma b̄e ninu awon alabosi.

**146.** Awon ti Awa ti fun ni tira mq q ḡeḡebi nw̄on ti mq̄ qm̄ w̄on, dajudaju awon ijo kan ninu w̄on si nfi ododo pamq̄, b̄eni nw̄on m̄o.

**147.** Ododo na w̄a lati qd̄ Oluwa rē, nitorina ma şe j̄e ara awon oniyemeji.

فَدَرَى تَقْلُبٌ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَمْ يَرِكَنْتَ  
إِلَّا تَرَضَنَهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ وَجَبَّ مَا كَسْتَمْ فَلَوْلَا وَجْهَكَ مَشْنُرٌ  
وَإِنَّ الَّذِينَ أُولَئِكَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَحَقُّ  
مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ يَعْلَمُ عَمَّا يَعْمَلُونَ

١٤٤

وَلَمْ أَنْتَ أَنْتَ الَّذِينَ أُولَئِكَ لَيَعْلَمُونَ بِكُلِّ إِيمَانٍ مَا  
تَعْمَلُوا إِلَّاتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِنَاطِنَمْ وَمَا  
بِعَصْمَهُمْ بِتَابِعٍ قِنَاهَ بَعْضٌ وَلَكِنْ أَنْتَ عَنْكَ  
أَهْوَاءُهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ  
إِنَّكَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ الظَّالِمِينَ

١٤٥

الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَرْفُونَ  
أَبْنَاءَهُمْ وَلَنَّ فِي أَعْمَالِهِمْ لَيَكْنُونَ أَحَقَّ وَهُمْ  
يَعْلَمُونَ

١٤٦

أَنَّهُ أَحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُمْتَنَّينَ

١٤٧

[1] Yiyi ti Annabi nyi oju rē si agbegbe sanmq tq̄ka si wipe on nreti aşe ati itq̄'ona Ql̄ohun nipa Qiblah (ibudojukq̄) tabi ibiti on yio ma kqjusi kirun.

[2] Botilé j̄ep̄e awon Yewudi ati awon Nasara nka Jerusalem si akori ibujosin w̄on, q̄nu w̄on k̄o k̄osi pe o j̄e Qiblah tabi ibukojusi w̄on nitoripe awon Nasara ma doju k̄o Gabasi nigbatı nw̄on ba ngbadura. B̄eni ofin Musa ni awon Yewudi ati awon q̄leşsin miran bi iru w̄on t̄ele; şugb̄on sib̄esib̄e q̄nu w̄on k̄o k̄o si ibukojusi kanna, nitori iyapa ti mb̄eların w̄on.

**148.** Ènikòkan (ninu awon èleşin) ni o ni ibukòjusi ti ndojukò, nitorina ñ tara gbawaju ninu işe rere nibikibi ti ñ le wa, Qlòhun yio mu gbogbo nyin wa papo; dajudaju Qlòhun je Alagbara lori ohun gbogbo<sup>[1]</sup>.

**149.** Lati ayekaye ti o si ti le jade wa, doju rë kò ñgangan Mòsalasi Abiyi na. Dajudaju o si je ododo lati qdò Oluwa rë, Qlòhun kò si je Onigbagbe nipa ohun ti ñ nse.

**150.** Ni ayekaye ti o ba si ti jade wa, doju rë kò ñgangan Mòsalasi Abiyi na, ati nibikibi ti ñ ba si wa, ñ doju yin kò ñgangan rë nitori ki a wijare ma ba mä bë fun awon enia le nyin lori, ayafi awon ti nwòn şe abosi ninu wòn; nitorina, ñ ma şe bëru wòn, Emi ni ki ñ si bëru ki Emi si le ba şe aşepe ore Mi fun nyin ati ki ènyin le ba mò qna târà<sup>[2]</sup>.

وَلِكُلِّيْجَهْ هُمُؤْلِمَاهُ فَاسْتَبِعُوا الْحَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَا أَنْتُ بِكُمْ إِنَّ اللَّهَ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ سَطْرَ الْمَسْجِدِ الْأَعْرَامِ وَحِيثُ مَا كُنْتَ فَوْلُوا وُجُوهَكُمْ سَطْرَهُ إِنَّمَا يَكُونُ لِلشَّاهِدِينَ عَلَيْكُمْ حَجَةُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشُوْهُمْ وَاحْشُوْنِي وَلَا تَمْنَعْنِي عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ هَمَدَوْتَ



[1] Itumò ãyah yi ni wípe Qlòhun fë lati sò gbogbo awon Musulumi di kan tabi ijo kan, nitorina On fë ki gbogbo wòn patapata ma dojukò ibikanşoşo ki wòn fi ohun asureba wòn şe ñkanşoşo ki wòn si ni akori ibujòsin kanşoşo ti wòn yio ma dajukò nibikibi ti nwòn ba wâ, ki eyi si je igbekalé eto ijé qmò-iya kanşoşo larin awon Musulumi ni gbogbo agbaiye. Idi eyi ni o mu Anabi Mohammad (Ki ik ñ ati qla Oluwa ki o mä ba a) wípe: ‘Ma se pe èniti ñ jø nkòjusi Qiblah kanna ni alaigbagò’.

[2] «Aşepe ore Mi» ti Qlòhun wi nihin ni mimuşé tabi şishiqa awon ileri ibukun ti Qlòhun şe pëlu Ibraheem nipa awon arqomqdgom Ismail. bi o ba şe ibomiran ti ki nse Kaaba ni a şe ni Qiblah fun Anabi ni, ibajé ohun awijare ti awon Yewudi ati awon Nasara ma mu dani lati mä fi şe =

**151.** Gęgę bi Awa ti ran ojişə si nyin lati ara nyin ti nke awon āyah Wa fun nyin, ti o si nfö nyin mō, ti o si nkö yin ni tira na ati ḥqbón-ijinlę, ti o si nkö nyin ni ohun ti ḥnyin ko mō tēlę.

**152.** Nitorina, ç ranti Mi, Emi yio si ranti nyin, e si mā dupę fun Mi, ç ma si şe aimôre si Mi<sup>[1]</sup>.

**153.** Mo pe ḥnyin ti e gbagbę e mā törö iranlıwö pęlu sūru ati irunkiki, dajudaju Qlühun mbę pęlu awon onisūrù<sup>[2]</sup>.

**154.** E ma si şe mā sə nipa awon ti a pa ni oju-qna Qlühun pe oku ni wọn, agbędö, o, alāyè ni wọn, sugbòn ḥnyin kò róye ni<sup>[3]</sup>.

كَمَا آتَيْنَا فِكْرَمُكُمْ بِرُسُولِنَا مُنْكِمْ يَتَّلَوُ  
عَلَيْكُمْ إِيمَانِنَا وَإِيمَانِكُمْ وَيَعْلَمُكُمْ  
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيَعْلَمُكُمْ مَا أَنْتُمْ تَكُونُوا  
تَعْلَمُونَ

١٥١

فَإِذْ كُرُونَى أَذْكُرْنَمْ وَأَشْكُرْنَوْلَى وَلَا  
تَكْفُرُونَ

١٥٢

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَسْتَعْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ  
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

١٥٣

وَلَا نَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ  
أَحْيَاهُ وَلَكِنْ لَا شُعُورُونَ

١٥٤

= atakò ati ijiani fun Anabi, nitoripe nigbana ileri ibukun ti Qlühun şe fun Ibraheem ati asotęlę nā iba kan wa lai mu şe; sugbòn nigbati ileri ibukun ti a şe fun Ibraheem ati isotęlę na di ohun ti a muşę, (ti a si şika), ki yio si ḥnikan ti yio şe atako mō ayafi awon alabosi.

[1] Qna ti enia le ma fi ranti Qlühun ni ki on mā fi iyin ati ogo fun orukö Rę, ki on si ma fi tōwötōwö téle ofin ati qna Rę pęlu irelę ati itेriba. Qna ti Qlühun si mā fi ranti enia ni pe On mā rę ojo ibukun ati ānu Rę le e lori.

[2] Mqşalasi Abiyi ti mbę ni Mękka ti wà lqwö awon qşębę, sugbòn mqşalaşı nā ni Qlühun si wa sə di Qiblah awon Musulumi. A si ti şe ileri fun awon Musulumi pe mqşalasi yi yio di ti wọn laipę ti a o si ko gbogbo awon orişa ti awon qşębę nā nsin ninu rę kuro. Sugbòn ki eyi to je be awon Musulumi na pâpa ni lati mā törö iranlıwö lqdę Qlühun, ki nwọn mā kirun, ki nwọn si mā şe suru ati ifarada, ki nwọn si duro şinşin gęgę bi ǫkunrin nigbati adanwò ba de.

[3] Bi a ba tilę pa awon ti nwọn fi ǫmi wọn jin nitori ki ododo le ba yę laiye, nwọn ki nse oku. Gęgę bi ododo ti mā nye ti irę si mānku, ohun ti nwọn fi ǫmi wọn jin le lori kòku, ko-dà bi a ba tilę pâ wọn si qna =

**155.** Dajudaju Awa yio si ma dan nyin wò pèlu nkan bi ेrujèjè ati ebi ati idinku dukiya ati awon েmi ati awon eso. Şe'rohin idunnu fun awon onisuru.

**156.** Awon ti i mā wi nigbati adanwo ba kan won, pe; Dajudaju ti Qloahun ni awa i şe, odø Rę ni awa yio si pada si<sup>[1]</sup>.

**157.** Awon wonyi ni ibukun ati ānu mbé fun lati odø Oluwa won, awon wonyi si ni nwon je েniti o mɔna tārà.

**158.** Dajudaju Safa<sup>[2]</sup> ati Marwa

= ododo tabi si qna Qloahun Awon ti nwon fi েmi jin si qna Qloahun yio mā wà lâye titi ni ोgba alijanna awon ti won je oku ni awon ti nwon ku sinu ोgbéri ati ôpè ati aishododo ati ębø şise.

[1] «Odø Qloahun ni awa ti wa odø Rę la o si pada si» je օrø ti o dara ki o mā jade lenu Musulumi nigbati adanwo ba de ba a. Ko si adanwo tabi arito kan ti o le ko idamu ba awon েmi Musulumi ododo nitora ohun ti o leke օkán won ju igbadun lasan ti aiye yi lø. Nitorina o dara pupø fun Musulumi ododo ki o mā wi gbolohun na ti ofo েmi tabi ti dukia ba kan a. «Inna lilahi wainna ilehi raijuu na». Aşa ti odara ni eyi je.

[2] Safa ati Marwa je awon oke meji ni ilu Mekka. Aye yi ni Hajara Iya Ismaila pôşşê lø siwaju, şehin ti o nse adura si Qloahun fun omi fun օmø օwø rę Ismail nigbati o wa ni on nikan şoso pèlu օmø rę ninu aşâlè. Nibiti oti nwa omi kiri yi ni adura rę gbà, ti o gbe oju s'oke, o si ri odo kekere kan (Zamzam) ti o nşan, o si fun օmø na mu. Ayah yi kø wa ni ęko súru ati ifi gbogbo igbekéle wa si Qloahun ni asiko işoro. Idi rę niyi ti awon েniti o ba lø si ile Qloahun ma fi npôşşê ni aye yi lati ran ara won l'eti ęko pataki yi. Omi ti ojade fun işelç yi ni omi «Zamzam» ti awon Al-haji ati awon al-haja mā mu bø lati ile Oluwa.

Ękø keji ti ayah yi kø wa ni wipe awon օşebø ninu awon Larubawa ni igba kan nsin orişa meji ni aye mejëji yi (Safâ ati Marwa). Awon Musulumi wa nbøru wipe boyá ki nse ętø fun won lati mā şe isin ipôşşê ni aye orişa. Şugbon ayah yi kø wa wipe aniyán ti afi şe nkan =

وَلَئِنْ بُرُونَكُمْ يَتَّقَنُ مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصِ  
مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشَّرَ

الصَّابِرِينَ

الَّذِينَ إِذَا أَصَبَّتْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ  
رَجِعُونَ

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهَتَّدُونَ

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَعَاءِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ

wa ninu awon ami Qloahun, enikeni ti o ba rin irin ajo lo si ile na ni asiko Haj tabi ti o lo be ç wo ni igba miran, kosi çe fun u, bi o ba ro kiri ka wọn. Eniti o ba si finufedo şe rere nitotq. Emi ti nsan ôre ni Qloahun, Olumq si ni.

**159.** Dajudaju awon ti o fi awon ohun ti A sôkalê ninu çri ododo ati itosona pa mo lehin igbati Awa ti şe ala-yé rë fun awon enia ninu tirà awon wonyi ni Oluwa yio şebi le, awon şebisêbi<sup>[1]</sup> yio si şebi le wọn pêlu.

**160.** Ayafi awon ti nwon ronupiwada, ti nwon si wa nse atunse awon ohun ti nwon ti şise, ti nwon si şe ifihan otitq, awon wonyi ni Emi yio gba ironupiwada wọn nitoripe Emi ni Olugba ironupiwada, Alanu.

**161.** Dajudaju awon ti ko gbagbo, ti nwon si ku nigbati nwon jé alaigbagbo, lori awon wonyi ni ègûn Qloahun mbé ati ti awon Molaika ati awon enia patapata.

---

= ni a mafî da wa l'ejø, ki nse ilo odi ti awon enia miran nlo aye na. Ti wa ni ki a sq ibe di mimo padà, ki a si mä şe mimo nibe gegëbi o ti wa ni mimo ni ipilê qjø.

[1] Awon şebisêbi wonyi ni Molaika ati enia. Enikeni ti o ba mo ododo çsin ti o si fi pamq ibi lati qdq Qloahun yio sôkalê le lori nipe yio jina si Qloahun ati si ore ati ãnu Rë ti çsin ma nmuwa fun çda. Ibi ti awon Molaika ni eyi ti o mä nwa ba çda nipa pipadanu emi işe rere ti awon Molaika jé apêrë rë. Ibi ti awon çda ni wipe awon çda kò ni sørq rere si çniti o jé qta Qloahun.

أَلَيْتُ أَوْغَضَنِّمَرَفَلَا جَاهَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّكَ  
بِهِمَا وَمَنْ نَطَقَ عَجِيرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ  
وَالْمُهَدِّى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَنَا لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ  
أُولَئِكَ يَأْلَمُهُمُ اللَّهُ وَلَيَعْلَمُهُمُ اللَّهُعُونُ

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ  
أَوْتُوبُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ أَنْتَ بِأَثْرَابِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا أُوتُوهُمْ كَهَارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ  
لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

**162.** Nwọn yio mā gbe inu rẹ, A kò ni i şe iyà na ni fusufun won, bẹni kò ni si isinmi fun won.

**163.** Olóhun Yin, Olóhun kanşoşo ni; kosi Olóhun miran ayafi On, Ajóké-aiye, Aşaké-qrún.

**164.** Dajudaju ninu şise edata sanmọ ati ilé, ati iyipada oru ati ọsan ati awọn ọkó ti nwòn nrin gère lori okun pélù ohun ti o nṣe anfani fun awọn enia ati ohun ti Olóhun nsókalé lati sanmọ ni omi ojo, ti O si fi njí<sup>[1]</sup> ilé lèhin iku rẹ, ti O tan awọn ḥranko ni orişirişi ka si ori rẹ, ati iyipada atègun ati ẹsujo ti A tèba larin sanmọ ati ilé. Dajudaju ninu awọn nkan wonyi awọn ami ariwoye wa fun awọn enia ti o ni lakaye.

**165.** O si mbé ninu awọn enia ti nwòn mu awọn nkan miran (ni isin) laijé Olóhun ni egbéra (Olóhun); nwòn nferan won gégébi nwòn i ba tifé Olóhun, sugbón awọn ti nwòn gba Olóhun gbó l'ododo le-koko ni iféran si Olóhun; kiba si şe wípe awọn ti o şe abosi le ri nigbati nwòn yio ri iya, pe gbogbo agbara ti Olóhun ni ati pe dajudaju Olóhun le-koko ninu iyà.

خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُجْفَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا مُ  
يُنْظَرُونَ ﴿١٦٣﴾

وَاللَّهُمَّ إِنَّكَ وَحْدَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَنُ  
الرَّحِيمُ ﴿١٦٤﴾

إِنَّ فِي خَلْقِ الْكَوَافِرِ وَالْأَرْضِ وَآخِلَّهُ  
أَلْيَلُ وَأَنَّهَا دُرُّ الْفَنَادِقِ الَّتِي يَهْرُبُ فِي الْأَبْغَرِ  
يُسَايِّنُهُنَّ النَّاسُ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ  
فَأَخْسَبَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْهِبَتِهِ بَلْ فِيهَا مِنْ  
كُلِّ ذَاتَةٍ وَصَرِيفٌ أَرْبَيجٌ وَالسَّحَابِ  
الْمُسَحَّرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَكِنَّ  
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٥﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنْخُذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَعْدَادًا  
يُجْعَلُهُمْ كَمْثُرٌ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حِبَّةً  
لِلَّهِ وَلَوْبَرَى الْأَذْنَانَ ظَلَمُوا إِذَا يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ  
الْقُوَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَرِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٦﴾

[1] «Njí ilé lèhin iku rẹ» - itumọ eyi ni wípe ojo ti o nrin ilé ti o si nmú ohun qgbín jade.

**166.** Nigbati awon ti a tèle ba yago fun awon ti nwòn ntèle wòn, ti nwòn si ri iyà, ohun ti o so wòn pò yio si ja.

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ أَتَيْعُوا مِنَ الَّذِينَ أَتَبَعُوا إِذْ رَأَوْا  
الْعَذَابَ وَنَقَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ

**167.** Awon ti o tèle wòn yio si wipe ibaşepo ipada si aiye mbè fun wa, awa kiba kò wòn silè gęęebi nwòn tikòwa silè. Bayi ni Qlohuń yio fi işe wòn han wòn ni öfò fun wòn, nwòn kò si ni jade ninu ina.

وَقَالَ الَّذِينَ أَتَيْعُوا لَوْا كَمَا كَرِهَ فَنَبَرَّأُ مِنْهُمْ  
كَمَا تَبَرَّأُ مِنْ مَا نَهَا كَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ أَعْنَاهُمْ  
حَسَرَتْ عَنْهُمْ وَمَا هُمْ بِخَرِيجِينَ مِنَ النَّارِ

**168.** Enyin enia, e mā je ninu awon ohun ti o tó ti o si dara lori ilè, e ma si se tèle ipâşé esu; dajudaju on je qta ti o han (pönyönhun) fun yin.

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُّ أُمَّةٍ فِي الْأَرْضِ حَلَّلَ اللَّهُ طِبَّا  
وَلَا تَبَرَّأُ مِنْ خُطُوطِ الشَّجَرِ إِنَّ اللَّهَ لَكُمْ عَدُوٌّ  
مُّبِينٌ

**169.** Yio ma sun yin si işe ibi ati iwa ibajé ati ki e le ma sò ohun ti e kò mò nipa Qlohuń.

إِنَّمَا يُرِكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَنْهُوا  
عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

**170.** Nigbati a ba sò fun wòn pe: Etèle ohun ti Qlohuń sò nwòn a wipe: Békò, awa ntèle ohun ti a ba lòwò awon baba wa. Kinla! Béni awon baba wòn kò ni oye kan, nwòn kò si ni itşöna.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَيْعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَسْعَى  
مَا الْفِتْنَةُ عَلَيْهِ أَبَأَهُمْ أَنْ لَوْ كَانَتْ إِلَّا بَأْسًا وَهُمْ  
لَا يَعْقِلُونَ سَيِّئًا لَا يَهْتَدُونَ

**171.** Apejuwe awon ti nwòn se aigbagbòjabi apejuwe éniti o nke pe ohun ti ko gbòran, afi ipe ati igbe, aditi, odi, asfoju niwòn; nwòn ko si ni lákaye.

وَمَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلَ الَّذِي يَنْقُعُ مَا  
لَا يَسْمَعُ لِأَدْعَاءَ وَنِدَاءَهُ صَمُّ بَعْدَمُ عُمُّ فَهُمْ  
لَا يَعْقِلُونَ

**172.** Enyin ti e gba Qlohuń gbò lododo, e mā je ninu awon ohun ti

يَأَيُّهَا الَّذِينَ مَا مُؤْمِنُوكُلُّوْا مِنَ طَبِّتْ

o dara ti A pa lese fun yin, ki ẹ si ma dupé fun Qlohung ti o ba jẹ wipe On ni ẹnyin nsin.

**173.** Dajudaju O şe ni ēwọ fun yin oku<sup>[1]</sup> mbete ati ejẹ ati ẹran ẹlẹdẹ ati ohun ti a pe orukọ miran le lori yato si ti Qlohung. Sugbọn ẹniti inira ba mu (jẹ), tiki i şe ife inu rẹ, ti ki i si şe ikọja ẹnu ălă, ko si ẹşé fun. Dajudaju Alaforiji ni Qlohung, Alanu si ni.

**174.** Dajudaju awọn ti o fi ohun ti Qlohung sọ kalè ninu tirà pamọ, ti nwọn si nta ni owo pòkù, awọn wonyi kò jẹ nkankan si inu wọn afi ina; Qlohung kò si ni ba wọn sọrọ ni ojọ igbende, bẹ si ni kò ni fọ wọn mọ. Iyà ẹlẹta-elero ni o si mbẹ fun wọn.

**175.** Awọn wonyi ni awọn ẹniti nfi ọna mimò ra iṣina, ati aforiji ra iyà. Bawo ni nwọn yio ti ni ifarada ina to!

**176.** Eyi ri bẹ nitoripe dajudaju Qlohung ti sọ Tirà na kalè pẹlu otitọ, ati wipe dajudaju awọn ẹniti o ba şe iyapa ẹnu si Tirà na wa ninu itako ti o ga.

**177.** Kosi ifiqkansin nipa ki ẹ yi oju nyin si iha gabasi ati (iha) yānmā; sugbọn ifiqkansin (on) ni

مَارَزَقُكُمْ وَأَنْكَرُوا إِلَهَيْنِ كُنْتُمْ إِيمَانَهُ  
تَبْدُونَ ﴿١٧﴾

إِنَّا هَمْ عَلَيْكُمُ الْمِبْتَدَأُ وَالْمَدْحُومَ  
الْعَنْزِيرُ وَمَا أَهْلَبَ بِهِ لِعْنَيْ إِلَهٌ فَمَنْ أَخْضَطَهُ  
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِلٌ إِلَّا مَعَاهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَفُوٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَكْثُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ  
الْكِتَابِ وَيَشْرُونَ كِبَرًا مُّنَاهَقِلًا أَوْ لِتِكَ  
مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا أَثَارَ وَلَا  
يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُوَمَّلُ الْقِبَمَةَ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ  
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٩﴾

أَوْ لِتِكَ الَّذِينَ اشْرَوُا الْأَصْلَامَةَ بِالْهَدَى  
وَأَمْكَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ  
عَلَى النَّارِ ﴿٢٠﴾

ذَلِكَ يَأْنَ اللَّهَ تَرَكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ  
الَّذِينَ أَخْتَلُوا فِي الْكِتَابِ لَمْ يُفَاقِيْ بَعْدِهِ ﴿٢١﴾

لَيْسَ إِلَّا أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَسْرِقِ  
وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ الَّذِي مِنْهُ أَمَنَ بِاللَّهِ وَآتَيْتُمْ

[1] «Oku-mbete» - Itumọ eyi ni ohun ti o ku fun ara rẹ.

ẹniti o gba Olóhun gbó, ati ojo ikéhin ati awon Mólaika ati tira na ati awon anabi ati pe o fi owo tóré nigbati on na ni ifé si i (owo) (abi o tóré nitiori ifé Rè) fun ẹni-isunmò ati ọmọ-orukan ati awon alaini ati ọmọ ori irin-ájo ati awon a tórojé ati fun irapada awon ti mbé ninu igbekùn érú, ati kikirun dédé, ati zaka yiyan, ati awon olu-mu a dehun wón şe nigbati nwón ba şe adehun, ati awon oni súru nigba inira ati iponju ati ni asiko ogun. Awon wónyi ni ẹniti o şe ododo, awon wónyi si ni olubéru<sup>[1]</sup> (Olóhun).

**178.** Enyin ti è gbagbo; A pa igbésan laşé fun nyin nipa ipânia: Omoluwabi fun ọmoluwabi ati érú fun érú ati obirin fun obirin<sup>[2]</sup>; şugbón ẹniti a ba şe idariji nkankan fun lati qdó ọmọ-iya rè (ti a pa enia rè), nigbana titèle ofin (sisanwo ejé lo kan) gégébi etó owo ni a o san fun u pélù daradara; eyi je igbefuyé ati ãnu lati qdó Olóhun nyin, şugbón ẹniti o ba koja ẹnu

الآخر والملائكة والكتاب والتبشّر  
وَإِنَّ الْمَالَ عَلَىٰ حُكْمِهِ مَوْيَ الْفُرْقَادِ  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلِ  
وَأَسَأَلِيلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصلَاةَ  
وَإِنَّ الْزَّكُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ يَعْهِدُهُمْ إِذَا  
عَنْهُمْ وَأَصْدِرُونَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَجِنِينَ  
الْأَنْسُ اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ  


الْمُنْتَهُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّ بَنِي إِنْ كُمْ لِقَصَاصٌ فِي  
الْأَنْتَلِ لَهُ رِبُّ الْحَرَبِ وَالْعَبْدُ بِالْمَبْدُ وَالْأَنْتَلِ يَا أَيُّهَا  
فَمَنْ عُذِقَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَفَعٌ فَإِنَّمَا يُعَذَّبُ بِمَا مَرَأَ  
وَأَدَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْقِيقُ مِنْ رَبِّكُمْ  
وَرَحْمَةُهُ فَمَنْ أَعْذَى بَعْدَ ذَلِكَ فَإِلَهُهُ عَذَابُ  


الْأَيُّهُمُ

[1] - Áyah yi kó ni pe igbagbo tabi irun-kiki nigba gbogbo lai si işe rere, asan ni, bení işe rere wónyi lai si igbagbo pe qkanşoşo ni Olóhun ati pe ojíşé Rè ni Anabi Muhammad (ki iké ati olá ki oma ba a) ati irun-kiki asan ni. Itumó yíyi oju si gabasi ati yanma ni pe didojukó Qiblah kirun nikán lai si işe kó le gba ni la.

[2] Itumó «qmoluwabi fun ọmoluwabi» ni pe ọmoluwabi ti o ba pania, yala ọmoluwabi tabi eru tabi obirin ni o pa, emi ọmoluwabi ti o pania ni a o pa dipó rè fun igbésan. Ti eru bà pa eru eru nã ni a o padi.

älà (ofin) ləhin eyi, nję iyà elero mbę fun u.

**179.** İşemi mbę fun nyin ninu igbesan, ẹnyin ti ẹ ni lākaye, ki ẹ ba le şora nyin.

**180.** A şe ofin le nyin lori (pe) nigbatı iku ba de si ọkan ninu nyin, bi o ba fi dukia silę, asotélę fun awọn obi mejēji ati awọn ibatan pęlu daradara jẹ eto fun ẹniti nbęru Qlohung.

**181.** Şugbon ẹniti o ba yi i pada ləhin ti o ti gbọ ọ (sieti), nigbana ẹşę rę mbę lɔrun awọn ẹniti o ba yi i pada nikau; dajudaju Qlohung ni Olugbörö, Oluni-imò.

**182.** Şugbon ẹniti o ba ni ifoiya iwa-àbosî tabi iwa-ęşę si ẹnitoso asotélę, nję ki o şe atunse larin wọn kosi ęşę fun u; dajudaju Qlohung ni alaforiji, Alānu.

**183.** Ẹnyin ti ẹ gbagbọ! A şe ãwè ni qranyan le nyin lori gegębi A ti şe e ni Oranyan le awọn ẹniti o şiwaju nyin lori ki ẹnyin le bęru (Qlohung)<sup>[1]</sup>.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حِبَّةٌ يَأْوِي إِلَى نَبْتٍ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَاضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِنْ تَرَكْ خَيْرًا لِوَلِيِّهِ لِمَوْلَانِي وَأَلْفَرِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُنَافِقِينَ



فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَعَى هُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الدِّينِ

يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

فَمَنْ حَافَ مِنْ مُوصِّجَنَّا أَوْ إِشَافَضَلَّ

بِيَنْهُمْ فَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْصِّيَامُ

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمْ يَكُنْ

تَنَقُّونَ

[1] ãwè gbigba jẹ ohun ti Qlohung şe ni qranyan fun awọn ojışe Rę ti o şiwaju gegębi O ti şe e ni qranyan ninu Islam şugbon ãwè ti awọn ero işaju ngba kò ni idı ati eto pataki gegębi ti Islam. Ninu Islam ni ękqo, etò ati idı ti o jinlę fun ãwè gbigba pari si. Idı ti awọn ęleşin işaju fi ngbawę ni pe bi ibanuję tabi idamu ba ba wọn. Şugbon nitorı ki a le paiya Qlohung lati şe ife Rę ni O şe şe ãwè ni qranyan fun Anabi wa =

**184.** Fun awon qojo ti o ni onka ni; suggbon eniti o ba nse aisan<sup>[1]</sup> tabi ti mbé lori irin-ajo ninu nyin, (yio san ãwé na pada ninu) onka awon qojo miran; ati fun awon eniti o ba ni lara ki won se irapada nipa bibo alaini yo; suggbon eniti o ba finufedó se ore kan eyini ni o dara juló fun u; ati pe ki e gba ãwé ni o dara-ju fun nyin bi enyin ba mó.

**185.** Oşu «Ramadhana» ni eyiti à so Al-Kurani kalé ninu rë, ilana ni o je fun awon enia ati éri ododo ti ilana-otitó na ati ipinya (ododo pélú iró); nitorina énikéni ti oşu na ba se oju rë ninu nyin, njé ki o gba ãwé ninu rë; eniti o ba nse aisan tabi ti o mbé lori irin-ajo (yio san ãwé na pada ninu) onka awon qojo miran. Qlohuñ nfé irqurun pélú nyin kò si fé inira fun nyin, ki e si se aşepe onka na, ki e ba le se agbega fun (oruko) Qlohuñ nitori qna ti O fi mó nyin ati ki enyin le mā se opé.

**186.** Nigbati awon érusin Mi ba bi o lère nipa Mi, dajudaju Emi mbé ni tosi; Emi njé ipe olupe-ipe

= (iké ati ola Qlohuñ ki o mā ba a) ati gbogbo Musulumi, ati ki a le mó inira ebi nigba ayo ati ki awon ti orijé le mó inira awon ti ebi npa lati se ãnu wón.

[1] Ati abo-yun ati abiyamq ti o nfun qmø lomu ati arugbo ti kò ni agbara lati gbawé mó wónkò ni gba ãwé lasiko rë. Suggbon won o san pada gegé bi Qlohuñ ti se alaye sisán rë.

أَيَّامَ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرْيَصًا  
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّهُ مِنْ أَيَّامِ أُخْرَى وَعَلَى  
الَّذِينَ يُطْعَمُونَهُ فَذَيَّ طَعَامًا مُسْكِنًا  
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ بِخَيْرٍ وَمَنْ أَنْصَمْوْا  
حَيْرًا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
هُدًى لِلْكَافِرِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى  
وَالْفُرْقَانَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ أَشْهَرَ قَلْصَمَةً  
وَمَنْ كَانَ مِنْهُ مَرْيَصًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّهُ  
مِنْ أَيَّامِ أُخْرَى بِرِيدُ اللَّهِ بِكُمُ الْيُسْرَ  
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسُرَ وَلَا تُكْلِمُوا أَنْعَدَةً  
وَلَا تُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ  
وَلَا تَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ



وَإِذَا سَأَلَكُوكَ عَبْدًا عَنِ فَلَيْقَرِيرٍ  
أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَتِ جِبُولِي

nigbati o ba pe Mi, nitorina ki awon nã mã jé ipe Mi, ki nwon si gba Mi gbó ki nwon le ba mo qna ti otó.

**187.** A şe oru ãwè ni eto fun nyin lati sunmø awon aya nyin; aşo ni nwon jé fun nyin, enyin na si jé aşo fun wón, Olóhun mó pe e şe abosi fun çemi-ara nyin<sup>[1]</sup>, nitorina O si ju ãnu wò nyin, O si şe imojukuro fun nyin, nitorina nisisiyi e sunmø wón, ki e si wa (lati şe) ohun ti Olóhun pa laşet fun nyin, ki e mã jé, ki e si mã mu titi iyato owu funfun si owu dudu yio fi han fun nyin ni afemojumø owuro, lêhinna ki e şe aşepe ãwè na titi di ale, e kò si gbodø sunmø wón, nigbati e şe atipo sinu mɔsalasi; iwonyi ni enu-ala (ofin) Olóhun nitorina e maşe sunmø o, bayi ni Olóhun şe alayé awon ãyah Rè fun awon enia ki nwon ba le bëru.

**188.** E kò gbodø jé ohun ini nyin larin ara nyin pélù èrù ati lati mu ninu rè fi wa qna (are) lødø awon onidajø ki e ba le jé apakan gun ninu ohun ini awon enia pélù iwa eşe, bëni enyin mó.

وَلِيَوْمَئِنْهُمْ يَرْشُدُونَ

أَجْلَ لَكُمْ يَوْمَ الْأَصْيَامِ أَرْفَثُ إِلَيْكُمْ  
هُنَّ لِيَاسِلَكُمْ وَأَسْمِلَكُمْ لَهُنَّ  
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ مُخْتَلِفُونَ أَنْفَسَكُمْ  
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
وَإِنَّهُوَ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرُبُوا  
حَتَّىٰ يَبْيَنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَيْضُ مِنَ الْخَيْطِ  
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ إِذَا تَأْتِيَ الْأَصْيَامِ إِلَيْأَيْلَ  
وَلَا تَبْشِرُوهُنَّ وَلَا شُعْرَارُهُنَّ فِي الْمَسَاجِدِ  
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَفْرُوْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ  
اللَّهُءَاءِ اِيَّهُمْ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْقُولُونَ



[1] Ni akokø awon Sâbe ki i sunmø awon aya nwon ni oru inu ãwè ati qsan rè pâpa nigbati nwon ba wa ninu ãwè, bëni aşa awon Yewudi ati Nasara ni, ati pe o jé ohun ti yio mu inira wa, nitorina ni ãya yi se sôkalè lati kò wa ni ekø nipa rè. Alai sunmø awon aya wón ni oru yi ni «abosi» ti nwon şe, nitoripe kosi ɔrqo bë ninu Al-Kurani.

**189.** Nwọn yio bi ọ lèrè nipa ilete oṣu<sup>[1]</sup> wipe: wọn jẹ akoko ti a yan fun awọn enia ati (fun) Haj; ki i ṣe iwa rere pe ki ẹ gba ḥin-ikule wọ ile; ṣugbọn iwa rere ni ki enia bẹru Qloqun ki ẹ si ma a gba ḥen ọna wọ ile; ki ẹ si bẹru Qloqun ki ẹ ba le jere.

**190.** Ki ẹ si mā ba (wọn jà) l'oju ọna Qloqun awọn ḥeniti o nba yin jà<sup>[2]</sup>, ṣugbọn ki ẹ maṣe rekōja ala, dajudaju Qloqun kò fèran awọn ti o nrekọ ja ala.

**191.** Ki ẹ si ma pa<sup>[3]</sup> wọn nibikibi ti ọwọ nyin ba tẹ wọn, ki ẹ si le nwọn jade nibiti nwọn ti le nyin jade; idāmu buru ju pipa lọ. Ṣugbọn ki ẹ ma ṣe ba wọn jà ni Mọsalasi Mimọ ni titi nwọn yio fi ba nyin jà ninu rẹ. Bi nwọn ba ba nyin jà ki ẹ pa nwọn. Eyi ni ḥesan awọn alaigbagbọ.

**192.** Ṣugbọn bi nwọn ba d'ékun, dajudaju Qloqun ni Alaforijin, Alānu.

[1] Awọn ti a pe ni ilete oṣu ninu wọn ni oṣu ti awọn Larubawa ya si mimọ; nwọn ki i jagun ninu awọn oṣu nā. Awọn oṣu wọn ni Rajab, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja ati Muharam. Ninu apakan awọn oṣu mèrèrìn wọn ni a mā nṣe abewo aye mimọ gbogbo ni Mecca ti a npe ni Haj.

[2] Ayah yi jẹ ṣokalé nipa eyiti a gba awọn Musulumi laye lati ba awọn ti o ba gbe ijà kò wọn jà. O si tun han ninu ayah yi pe ogun idābo bo ḥesin ni awọn Musulumi njà.

[3] Bi ogun ba ti bẹ silẹ a le pa awọn ọta nibikibi ti a ba ri wọn.

يَسْأَلُوكُمْ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَعِيدُ  
اللَّهِ إِنَّ الْحَجَّ وَلِيَسَ الْبَرُّ بَأْنَ كَانُوا  
أَبْشِرُوتَ مِنْ ظُهُورِهِ كَا وَلِكَنَ الْبَرُّ مِنْ أَشْفَقَ  
وَأَنُوَّا أَبْشِرُوتَ مِنْ أَبْوَاهُكُمْ وَأَنَّهُوا اللَّهُ  
لَكُمْ ثَقْلِهِوْتَ

وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ  
وَلَا تَعْنَتُ دُرُّ أَبْرَكَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِلِينَ

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ نَفِئُهُمْ وَأَخْرُجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ  
أَخْرَجُوهُمْ وَأَفْسَدُهُمْ أَسْدِدُنَ الْقَتْلِ وَلَا يُنْتَلِوْهُمْ عِنْدَ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوكُمْ فِيهِ  
فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّافِرِينَ

فَإِنْ أَنْهَاكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

**193.** Ki ẹ si ma ba nwọn jà titi ti ki yio fi si idāmu mọ ti ẹsin yio si wa (ni ominira) fun Olqhun. Şugbọn bi nwọn ba d'ékun (ija), nigbanna ko gbodọ si igbogun ti ayafi si awọn alabosi<sup>[1]</sup>.

**194.** Oṣu mimọ fun oṣu mimọ<sup>[2]</sup>, ati pe awọn ọwô ni igbęsan. Nitorina ẹnikení ti o ba kójá ẹnu-ala si nyin, ki ẹnyin na kójá ẹnu-ala si i gęębi iru ikójá ẹnu-ala ti o şe si nyin; ki ẹsi bęru Olqhun ki ẹ si mọ dajudaju pe Olqhun mbę pęlu awọn olubęru (Olqhun).

**195.** Ki ẹ si māna ohun-ini si oju-ọna Olqhun, ki ẹ ma si şe fi ọwọ yin fa iparun<sup>[3]</sup>, ki ẹ si mā şe rere; dajudaju Olqhun fęran awọn ti o nşe rere.

**196.** Ki ẹ si şe aşepe (işe) Haj<sup>[4]</sup>

وَقَبْلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الَّذِينَ لَهُ  
فَإِنْ أَنْهَاوْا فَلَا يَعْدُونَ إِلَّا لِلظَّالِمِينَ

الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَأَنْهِمْ كُلُّ قَصَاصٍ<sup>[5]</sup>  
فَمَنْ أَعْنَدَهُ عَيْنَكُمْ فَأَعْنَدَهُ وَأَعْلَمَهُ بِمِنْهُ مَا أَعْنَدَهُ  
عَيْنَكُمْ وَأَنْهُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنْصَرِينَ

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّارِ  
وَأَخْسِرُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

وَأَئْمُو الْحَجَّ وَالْعُرْمَةُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْهِرْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسِرَ

[1] Erò pataki gan ti a fi gba awọn Musulumi laye lati ja ôgun tubo han gbangba nihin pe ki ominira le wa fun ẹsin ni, ki olukuluku le mā șe ẹsin ti o jẹ ẹsin otitọ ti o si le ti ipa rę ri ighbalà.

[2] Bi awọn ọta ba gbe ijá ko awọn Musulumi ninu awọn oṣu mimọ ki awọn na ba wọn jà.

[3] Gęębi o şe jẹ pe ogun idābobo ara-ẹni ni inawo ninu, a fun awọn Musulumi ni amoran lati dawo sinu apo owo ogun ti a pe ni inawo si oju-ọna Olqhun. Bi wọn ba kùna lati şe iranlqwọ owo fun idābo bo ara wọn, nwọn yio fi ọwọ ara wọn fa iparun.

[4] Isin Haj tabi irin-ajo mimọ lọ si Mekka ni ipari opo ẹsin Islam marun. Lọ wo ãyah 197 titi de 203 nipa ọrọ Haj. Akókó ninu opo ẹsin Islam mararun nipe: Kagba Olqhun ni Qkan şoso atipe Anabi Mohammad Ojişé Rę ni, ekeji ki a ma ki irun wakati marārun lojojumọ, ékëtä ki a ma yan saka ni ọdọ dun ninu ọrọ wa, ekérin ki a ma gba ãwé Ramlana, Ekarun ki arin irin àjò lösí ile Oluwa ti a ba ni agbara Haj.

ati Umura<sup>[1]</sup> fun Olóhun. Şugbón bi a ba se yin mō qona, ki ẹ fi ohun ti o ba rorun ni qré (ransé), ki ẹ ma si şe fá (irun) ori yin titi ti qré na yio fi de aye rē. Şugbón ẹnikéni ninu yin ti o ba şaisan tabi ti ori ndun u, ki o şe irapada nipa (gbigba) âwè tabi sara tabi ेran-pipa. Nigbati ẹ ba si ti fi ọkan balè (ninu ewu), ẹnikéni ti o ba pa Umura pō mō Haj, ki o fi ohun ti o ba rorun şe itqré ânu. Şugbón ẹnikéni ti ko ba ri (ohun ti yio fi şe itqré) ki o gba âwè ọjọ mēta ni Haj ki o si gba meje nigbati o ba pada (de ile), eyi yio jé (âwè ọjọ) mēwa perepere eyi wa fun ẹniti ko si ẹbi rē ni Mosalasi-Mimō. Ki ẹ bérú Olóhun ki ẹ si mō daju pe Olóhun le koko ní iyá.

**197.** Haj şise ninu awon oшу ti a mō ni<sup>[2]</sup>; nitorina ẹnikéni ti o ba pinnu lati şe Haj ninu wọn, kò gbodó sọ ὸrō isqokusó, ko si gbodó si ēbu bēni kò gbodó si ijá<sup>[3]</sup> ni

منَ الْهُدَىٰ وَلَا يَحْلِفُوا بِهِ وَسُكُونٌ يَلْعَمُ الْهُدَىٰ حَلَّهُ  
فَنَّ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ يَهُدَىٰ مِنْ رَأْيِهِ فَقَدْ نَذَرَ  
مِنْ صَيَامٍ أَوْ صَدَقَةً أَوْ شُكُوكًا فَإِذَا أَمْنَمْتَ فَنَّ تَمَعَّنَ  
بِالْعُمَرَةِ إِلَى الْحِجَّةِ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدَىٰ فَنَّ لَمْ يَجِدْ  
فَصَيَامٌ لِلثَّلَاثَةِ أَيَّارًا فِي الْحِجَّةِ وَسَعَى إِذَا رَأَجَعْتُمْ  
تِلْكَ عَشَرَةَ كَامِلَةً ذَلِكَ لِمَنْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرٍ  
الْمَسْجِدُ لَمْ يَرْأِ وَأَنْقُلُوا اللَّهَ وَأَغْمُلُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ

الْعِقَابِ

الْحِجَّةُ أَشْهُرٌ مَعْلُومٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِ  
الْحِجَّةَ فَلَارْجَثَ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جَدَالٌ فِي الْحِجَّةِ  
وَمَا قَعَلُوا مِنْ حَيْثُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ

[1] Itumō Umura ni abewo. A le pe Umura ni isin Haj kekere. Igbakigba ni a le şe Umura yatq si Haj ti o ni akoko kan pataki larin ọdun gęgębi ayah 197 ti wi. Gbogbo ohun ti oşé pataki lati şe ninu isin Haj gan na ni o wa lati şe ninu isin Umura ayafi Arafat Muzdalifat ati Mina nikani kò si ninu eto ti Umura.

[2] Awon oшу ti a mō dāda na ti a nşe isin Haj ninu rē ni Shawal, Dhul-Qada ati lati ọjọ kinni titi de ọjọ kęwa oшу Dhul-Hijja.

[3] Isin Haj jé ipari ijösìn ninu Islam o si jé isin mimō; nitorina, a ni lati şe e ni mimō. Nipa bayi, ẹnikéni ti o ba wa ninu isin Haj na kò gbodó şe ohunkohun ti ko dara bi ὸrō isqokusó, ὸrō buruku, ēbu ati ijá. Eto =

Haj. Ohunkohun ti ẹ ba si şe ni rere Qloahun mo ọ. Ki ẹ si pese dani<sup>[1]</sup>, ese ti o dara ju ni iberu Qloahun; ki ẹ si beru Mi, ẹnyin onilakaye.

**198.** Kò si ibawi fun yin lati wa oju-re Oluwa yin<sup>[2]</sup>. Nitorina, bi ẹ ba ndaribø lati Arafat<sup>[3]</sup>, ki ẹ se iranti Qloahun nibi aye mimo ni (Muzdalifa), ki ẹ şe iranti Rè gęęebi On şe ti to yin s'ona botilejępe nişaju ẹ wa lara awon ti o s'ona.

**199.** Léhinna ki ẹ darikø ibiti awon enia badarikø, ki ẹ si wa asorijin Qloahun, dajudaju Qloahun je Alaforijin, Alānu.

**200.** Nigbati ẹ ba pari ijosin yin, ki ẹ ranti Qloahun gęęebi iranti yin

وَكَرَّوْدُوْأَفَإِنْ كَهْرَلَرَادُالْتَّهُوْئَيْ  
وَأَتَقُونْ يَتَأْوِيْلَ الْأَكَبَيْ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْعَثُوا  
فَضْلًا مِنْ رَيْكُمْ فَإِذَا أَفْضَلْتُمْ  
مَنْ عَرَفْتُ فَإِذَا كُرُوا اللَّهُ عَنْهُ  
الْمَشْعُرُ الْحَرَاءُ وَذَكْرُوْهُ كَمَا  
هَذَنِكُمْ وَإِنْ كَثُنْتُمْ بِقَبْلِهِ  
لَيْنَ الْفَكَالَيْنَ

ثُمَّ أَفْيَضُوا مِنْ حَيْثُ أَفْاصَنَ النَّاسُ  
وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَمُورٌ رَّحِيمٌ

فَإِذَا أَفْضَلْتُمْ مَنْ تَسْكُنُكُمْ فَإِذَا كُرُوا

---

= Islam ni lati mu alafia sòkalè si aiye jakejado nipa mimu ki awon enia ma gbe pø ni alafia. Nipa bayi, ninu isin Haj to je ipari isin Islam a fę pe ki a yago fun gbogbo awon ohun ti o nşe idiwö fun iwa (bibę) ni alafia ati irępø awon enia.

[1] Ẹnikeni ti yio ba lq şe isin Haj gbodø mu awon nkan ti yio je ki irin-ajo na je irɔrun fun u dani. Ki o mu owo dani dāda ti yio to o na lq nabø léhin ti o ba ti fi ile rę si eto dāda. Ohun pataki julq ti a tun fę pe ki a mu dani lq si Haj ni iberu Qloahun nitoripe ori eyi ni ohun gbogbo duro le.

[2] Ojure Oluwa nihin, ḥwò şise, l'oduro fun; eyi ni pe a le ş'owo l'asiko isin Haj. Ki i şe ēwø fun Musulumi lati wa ilqsiwaju ti aiye gęęebi o şe nwa t'ɔrun.

[3] Arafat ni aye ti (awon) Alhujaji npejø si ni Mekka ni qjø kësan oşu Dhul-Hijja. Pipejø si Arafat yi je origun kan pataki ninu isin Haj to bę ti ofi je pe bi enia ba kùnà lati ba wọn pe si ibę l'ojø na oluwa rękò ti di Alhaji tabi Alhaja.

si awon baba yin tabi iranti ti o le ju u lọ. Şugbọn o wa ninu awon enia ti o nwipe: Oluwa wa fun wa (ni õre) ni aiye yi; ki yio si si ipin kan fun u l'orun.

**201.** O si mbẹ ninu wọn ti nwipe: Oluwa wa fun wa ni rere ni aiye yi ati rere l'orun, ki o şo wa ninu iya ina<sup>[1]</sup>.

**202.** Awon wonyi ipin ere işe wọn yio wa fun wọn. Olóhun si yara ninu işiro (işe).

**203.** E şe iranti (isq'rukọ) Olóhun larin awon ojọ ti o ni onka, lehinna ẹniti o ba kanju lọ ni ojọ meji kosi eşẹ fun u; ẹniti o ba tẹṣẹ duro dię kosi eşẹ fun u; eyi mbẹ fun ẹniti o bẹru Olóhun; ki e bẹru Olóhun; ki e si mọ pe a o ko yin jọ si ọdq Rè<sup>[2]</sup>.

**204.** O mbẹ ninu awon enia ti o jẹpe ọrọ rẹ yio jọ yin l'oju nipati

أَنَّهُ كَذَّبَكُمْ بِآيَاتِنَا فَمَنْ أَنْشَدَ ذَكْرًا  
فَمِنَ الظَّالِمِينَ مَنْ يَقُولُ رَبِّنَا إِلَيْنَا فِي  
الْأُنْتِيَارِ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ حَلْقٍ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبِّنَا إِلَيْنَا فِي الدُّنْيَا  
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَاعَدَابٍ  
اللَّهُ أَعْلَمُ

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ بِمَا كَسَبُوا  
وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَغْدُودَاتٍ  
فَمَنْ تَسْجَلْ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ  
تَأْخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ آتَقَ وَأَنْعَمَ اللَّهُ  
وَأَعْلَمُ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ مُخْرُونَ

وَمِنَ الظَّالِمِينَ مَنْ يُعِجِّلُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ

[1] Adua Musulumi pataki ni eyi. Gęębi a ti kɔ Musulumi pe ki o mā gb'adua lati ni ipin rere ni aiye yi ati ipin rere ni orun, bakanna ni o ni lati mā sa apa lati jẹ ẹni rere ni aiye yi ati l'orun. Eyi ni iyatọ ti o wa larin ęsin islam ati awon ęsin miran nipa pe awon ęsin miran kɔ ni pe bi o ba nfę orun o ni lati kɔ ęhin si aiye; şugbọn Islam kɔ ni pe bi a ti nwa orun ki a mā wa aiye. Şugbọn a kò gbqdq jekí wiwa aiye ko di wiwa orun lqwɔ.

[2] Ojọ mejéji ti a wi yi tobi pupq; awon ojọ na ni a mā lo ni Mina lehin ti a ti şe Haj, tan, Eyi yi ni ojọ kókanla, ekejila ati ękətala ti oşu Dhul-Hijja. Awon ojọ wonyi ni a mā nlo ni Mina lati ma yin Olóhun l'ogo; ati lati ma şo orukq Rè.

igbesi aiye yi, ti yio si fi Qloqun şe  
eléri si ohun ti o mbé ni ɔkan rè,  
sibesibé qta gidi ni<sup>[1]</sup>.

**205.** Şugbón ti o ba ti yi pada,  
yio ma sare kiri lori ilé lati şe ibajé,  
yio si ma pa awon ɔgbin ati ohun  
ɔsin run; Qloqun kò férán ibajé.

**206.** Ati pe nigbati a ba sò fun u  
pe: ‘bèru Qloqun’, igberaga a si mu  
u da ęşé si, nipa-bayi ina a wa to o,  
ibusinmi buburu si ni.

**207.** O mbé ninu awon enia ti o  
jé pe yio gbe ara rè ta lati le fi wa  
oju rere Qloqun atipe Alánu ni  
Qloqun fun awon eru Rè.

**208.** A pe ęnyin onigbagbó, ç ko  
si ęsin Islam patapata, ç ma şe tèle  
işişé esu, dajudaju, on jé qta ti o fi  
oju han fun nyin<sup>[2]</sup>.

**209.** Şugbón ti ç ba jé ki ęşé yin  
yé, lèhin ti ohun ti ofi oju han ti  
wa ba yin nse ni ki ç mó pe  
Alagbara ni Qloqun, Qloqbon si ni.

**210.** Nwón kò reti nkankan ju

الَّذِينَ أَوْيُشَهُدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قُلُوبِهِ  
وَهُوَ أَلَّا يُخَاصِمُونَ

وَإِذَا تَوَلَّتْ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا  
وَيُهَمِّلَ الْحَرَثَ وَالْمَسْلُ وَاللهُ  
لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

وَإِذَا قَلَ لَهُ أَنْقَلَ اللَّهُ أَخْذَنَهُ الْعَزَّةَ بِالْأَئْشِ  
فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِئَلَّهُ الْهُدَىٰ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ أَبْتِكَانَ  
مَهْنَكَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْبَكَادِ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مَسُوا أَذْخُونَافِ الْتِسْلِمِ  
كَانَهُ وَلَا تَنْعِمُوا بِخُطُوبِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَذَّابٌ مُّبِينٌ

فَإِنَّ رَبَّكُنُّمْ مِنْ بَمْدَمَاجَاءَ تَكْثِيرًا  
الْأَبْيَنَتْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

هَلْ يُظْرِوْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيْهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنْ

[1] Awon ti ãyah yi bawi ni awon ti ęnu wón dun pe o tó ki a şe rere fun ara aiye, sugbón ti ohun aiye na ba té wón lqwó tan ti ara wón ni wón fi i gbó.

[2] Lèhin ti a ti sò ɔrò awon ti o jé pe aiye ni wón le ba, o tó ki a ba awon onigbagbó ati awon ti igbagbó wón kò rinlé to sò ki wón wó Islam ti apa ti ęşé patapata ki wón ba le ri ere rè jé. Ki a si kiló fun awon ti igbagbó wón kò duro ki wón ya fun èşu.

pe ki Olóhun wa ba wọn lati inu ibojo eṣu-ojo, pèlu awon Mòlaika pe a si ti pari ḥorò na. Qdò Olóhun ni apadasi gbogbo ḥorò.

**211.** Bi awon qomò Israile l'ère: Idi ḥorò ti o yanju melo ni a ti fun wọn. Èniyowu ti o ba yipada oju rere Olóhun lèhin ti o ti de wa ba a, dajudaju Olóhun le koko ninu iyà.

**212.** A şe ile aiye yi ni ohun ti yio mā jò awon ti kò gbagbò l'ojù, (nipa bayi) nwòn a mā fi awon onigbagbò şe eṣe. Şugbòn awon ti o bëru Olóhun yio ju wòn lò (nipa iké Olóhun) ni ojò ikéhin. Olóhun A mā şe arisiki fun ẹniti O ba fè lai ni oṣu -wòn<sup>[1]</sup>.

**213.** Gbogbo awon enia jé iran kanşoso; Olóhun gbe awon anabi dide ni onijihin rere ati olukilò ati pe On si sòkalè fun wòn tirà na pèlu ododo ki O ba şe idajò larin awon enia nipa ohun ti wòn şe iyapa ẹnu si; ẹnikan kò si şe iyapa ẹnu nipa rè, ayafi awon ti A ti fi fun lèhin ti ododo ti wa ba wòn niti ilara larin ara wòn. Olóhun tò awon ti o gbagbò si ọna nipa ohun

الْعَمَارُ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأُمُورُ  
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ



سَلَّمَتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِلَكُمْ مَا أَتَيْتُهُمْ مِنْ كِلَامٍ سَيِّئٍ  
وَمَنْ يَدْعُلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ



رُبِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَسَخْرُونَ مِنْ  
الَّذِينَ أَتَوْا وَالَّذِينَ أَتَقْرَأُوا فَوْهَمُهُمْ يَوْمَ  
الْقِيَمَةُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ



كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ الْأَنْبِيَّةَ  
مُبَشِّرِينَ كَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مِنْهُمُ الْكِتَابَ  
بِالْحَقِّ لِيَحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا أَخْلَقُوا فِيهِ  
وَمَا اخْتَلَفُ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَنِدْ  
مَاجَاهَةُهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَعْدًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ  
الَّذِينَ أَمْنَوْا لِمَا أَخْلَقُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ يَذَلِّلُهُ  
وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ



[1] Awon ti aiye yé mā nsaba ro pe kosi ohun ti o le şe awon mò, wòn a si mā fi eyi şe fàri lori awon ti o nṣe ti Olóhun ti wòn kò si ni ḥorò lòwò to wòn; şugbòn igba kan nbò ti wòn kò ni jé nkan kan mò ti awon ti wòn nwo n'ilè tun mā wa di ẹni agbega.

ti wọn şe iyapa ḥnu si ni ti ododo  
pelu aşe Rè Olqun A mā fi ḥniti O  
ba fę mo ḥna ti o şe tārā<sup>[1]</sup>.

**214.** Tabi ḥnyin ro pe ḥnyin yio  
wq̄ ḥqba idera na nigbati irufé  
ohun ti o de wa ba awon ti o  
şiwaju yin kò i ti ba yin? A fi inira  
ati aisan kan wọn A si mi wọn  
jigijigi to bę gę ti ojiş ati awon  
onigbagbę ti wọn gbagbę pelu rę  
sö bayi pe: Nigbawo ni iranlqwō  
Olqun mā de? Ha! Dajudaju  
nisisiyi iranlqwō Olqun sunmę<sup>[2]</sup>.

**215.** Nwọn o bi q̄ l'ere pe kini ki  
awon mā ná. Wipe: Ohun ti o ba  
dara (ninu) ḥopolopę ḥrō (ki o je  
fun) awon obi mejēji ati awon ara  
ati awon ḥomq orukan ati talaka ati  
ḥomq oju-qn̄a. Ohunkohun ti ę ba şe  
ni rere, Olqun mo<sup>[3]</sup>.

أَمْ حَسِنْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَا يَأْتِكُمْ  
مَثَلَ الَّذِينَ حَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهِمُ الْأَيَّامَ  
وَالْأَصْرَارَهُ وَرُزِّلُوا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ  
عَاهَدُوا مِمَّا نَصَرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصَارَاللَّهِ  
فِرِيمٌ

يَسْتَأْلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ  
خَيْرٍ فَلَمَّا لَدِينَ وَالْأَفَارِينَ وَالْإِسْمَاعِيلِينَ  
وَابْنِ الْتَّكِيلِ وَمَا نَفَعَوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ  
عَلَيْهِمْ

[1] Olqun fi han wa nbi pe bi O ti pe iran kan ni awa ḥda ni ipilę  
qj̄. Bęni On Olqun tun wa şe wa ni irrankan lati qd̄ Anabi  
Muhammad ti o fi Tirà Al-Kurani Alapónle ran si gbogbo aije ati pe  
aigbagbę je ilara larin awon enia ni. Anabi Muhammad ni o wa da'j̄  
ariyan jiyan ti o mbę nipa awon tirà ti o şiwaju, gęębi Ataorata,  
Sabura ati Injila...

[2] Gbogbo ḥniti yio şowo jere yio şe aşe lagun pelu i fi ara da. Bayi na  
ni ojuqna ti Olqun fun awon onigbagbę ododo; nwọn ni lati ri wahala,  
qwq̄ kò ni to ḥnu tobę, inira yio mā bę, bęni a o gbò wq̄ jigijigi ti  
wq̄ o fę fi bę un ki aranşę Olqun to de; nitori bęni a şe fun awon  
ara işiwaju ninu ḥsin ki nwọn to di ḥni rere niwaju Olqun.

[3] Ohun ti o ba dara ni a ni ki wq̄ ná: Eyi ni bi owo ti nwọn şe işe  
rę ati ḥrō ti nwọn ba ni, ḥrō ti a wi yi le je agbara, alafia, aşq̄, imq̄,  
ḥrō ḥnu ti o tutu tabi ipari ij̄a larin awon meji tabi ohun bi irufé bę.

**216.** A pa ogun jijà ni aşe fun nyin, şugbon o je ohun ti ç korira. Bëni o le je pe ẹnyin korira nkankan ti nkan na yio si je òre fun nyin; bësi ni ẹnyin yio şeran nkankan ti yio je aburu fun nyin. Qloşun mo, ẹnyin kò mo.

**217.** Nwọn yio bi o l'ere ogun jija ninu oşu mimo; so fun wọn pe: Jijagun ninu rë je ẹşé ti o tobi şugbon ki a di enia lówo ni oju-ona ti Qloşun ati aigba A gbó ati ki a di enia lówo ni Mọsalasi Mimó ati ki a le awon ti o wa ni ibé jade tobi juló ni ẹşé niwaju Qloşun: şugbon ki a ni enia l'ara ni inira buruku ju ki a pa enia ló; nwòn kò si ni ye yin bajà titi ti nwòn o fi le yin kuro loju-ona ẹsin yin ti nwòn ba ni agbara. Eniyowu ti o ba yipada kuro ninu ẹsin rë ninu yin ti o si wa ku, o ku ikú aigbagbó, awon wonyi ni işe wòn yio ja si ofo ni aiye ati orun, awon ni yio je ero ina, nwòn o si gbe ibé gbere.

**218.** Dajudaju awon ti o gbagbo ati awon ti o şile wa ti nwòn si sa ipa ni oju-ona ti Qloşun, awon wonyi ni nreti ânu Qloşun. Qloşun je Alaforijin, Alaanus<sup>[1]</sup>.

كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْزَهُ لَكُمْ وَعَسَى  
أَن تَكُرُّهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى  
أَن تُجْعَلُوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

يَسْتَأْلُكَ عَنِ الْأَشْرَارِ حَرَامٌ قِتَالٌ فِيهِ مُؤْمِنٌ  
قِتَالٌ فِيهِ كَيْرٌ وَصَدْقَةٌ عَنْ سَيِّلِ اللَّهِ  
وَكُثُرٌ فِيهِ، وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَلِحَاجَةٍ أَهْلِهِ  
مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفَتَنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ  
وَلَا يَرَوْنَ يُقْتَلُونَ كُمْ حَتَّى يُرْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ  
إِنْ أَسْتَطَعُمُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ  
فَيَمْتُ وَهُوَ كَافُرٌ فَأُولَئِكَ حِطَّتْ أَعْنَاهُمْ  
فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
هُمْ فِيهَا خَلِيلُوكَ ﴿٣٧﴾

[1] Qloşun şe adehun fun awon Musulumi nihin pe ati awon ati awon ti nwòn şe ile wa ati awon ti wòn fi gbogbo ohun ini nwòn şe ti Qloşun pe awon ni yio ri oju rere Qloşun ati iké Rë. Alaforijin ni Qloşun, yio fi ori gbogbo ẹşé wòn jin wòn, yio si kë wòn pçlu.

إِنَّ الَّذِينَ إِمَّا مُؤْمِنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَهَهُدُوا  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ رَبُّوْنَ رَحْمَنَ اللَّهُ  
وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٨﴾

**219.** Nwọn o bi ọ l'ere nipa ọti ati tété; wipe: Eşé nla mbé ninu mejēji, anfani (ōre) tun wa nibé fun awọn enia, şugbón ẹşé awọn mejēji ju anfani awọn mejēji lọ. Nwọn o tun bi ọ l'ere kinni ohun ti nwọn yio mā ná; sọ pe: Ohun ti agbara bâ kâ. Bayi gân ni Qloahun şe la awọn âyah Rè ye yin ki ẹnyin ba le ronu.

**220.** Ni aiye ati ọrun. Nwọn o tun bi ọ l'ere nipa awọn ọmọ orukan; wipe: Işe daradara fun wọn ni o daraju, bi ẹ ba si kó wọn mọ'ra ọmọ iya nyin ni nwọn i şe. Qloahun mọ obilejẹ yatọ si alatuńse, bi Qloahun ba si fẹ ni, dajudaju I ba ni yin lara. Dajudaju Qloahun je Alagbara, Qlogbón.

**221.** Ekò gbodò fẹ awọn aborişa obinrin titi nwòn yio fi gbagbò; dajudaju ẹru-binrin ti o gbagbò san ju aborişa obinrin lọ bi o tilé je pe o wu yin. E kò si gbodò fi ọmọ yin obinrin fun awọn aborişa ọkunrin titi nwòn yio fi gbagbò; ati pe dajudaju ẹru-kunrin ti o gbagbò san ju aborişa ọkunrin lọ bi o tilé je pe owu yin; awọn wonyi npe ipe lọ si ibi ina, Qloahun si npe ipe lọ si ibi ọgba-idéra ati aforijin pèlu aşe Rè. O si nṣe alaye awọn âyah Rè fun awọn enia ki nwòn ba le mā ranti.

يَسْأَلُوكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَنَبِيرِ  
قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَعَ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ  
أَكْثَرُ مَنْ نَفَهُمَا وَيَسْأَلُوكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ  
قُلِ الْعَمَلُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ  
لَمَّا كُمْ تَنَفَّكُرُونَ ﴿١٣﴾

فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُوكَ عَنِ الْيَتَمَّ  
قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ حِيَوٰنٌ وَإِنْ تَحَاوِلُ طُوْهُمْ فَإِنَّهُمْ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْأَنْفَسَ مِنَ الْمُصْلِحِ  
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٤﴾

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُسْرِكَتْ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا مُؤْمِنَةُ  
مُؤْمِنَةُ حِيَرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُسْرِكَيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا يَعْدُ  
مُؤْمِنٌ حِيَرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ  
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ  
وَالْمَغْفِرَةِ يَا ذَرْهِهِ يَبِيِّنُ إِيمَانَهُ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿١٥﴾

**222.** Nwọn o si bi ḥ l'ere nipa nkan oṣu (obinrin); ṣo pe: Ḥebin ni, nitorina ḥ yē'ra fun awon obinrin ni asiko na ki ḥ ma si ḥe sunmọ wọn titi nwọn yio fi mó. Nigbati wọn ba mó ki ḥ lō ba wọn ni àye ti Olóhun pa laṣe fun yin; dajudaju Olóhun fēran awon ti o ronu piwada, O si fēran awon ti o mó.

**223.** Awon obinrin nyin oko ni wọn ḥe fun nyin; ḥ mā lō si oko nyin bi ḥ ba ti fē, ḥ ti dāda ḥiwaju fun ara yin ki ḥ si bēru Olóhun, ki ḥ si mó pe ḥ o pade Rē, ki ḥ si fun awon onigbagbō ododo ni iro idunnu.

**224.** Ḫ ma ḥe fi Olóhun ḥe idina fun ibura nyin lati ḥe rere. Ḫ şo'ra, ki ḥ si mā ḥe atunṣe larin awon enia. Olóhun si je Olugbō, Olumô<sup>[1]</sup>.

**225.** Olóhun kò ni mu nyin fun ibura yin ti kò ti inu wa. Ḳugbōn yio mu yin fun ohun ti ḥokàn yin ḥe ni'şē. Olóhun si je Alaforijin, Alafarada.

**226.** Ikoraro oṣu mērin mbē fun awon ti nwòn ti burá pe awon kò ni tō iyawo wón lō Ḳugbōn bi wón ba pada, dajudaju Olóhun je Alaforijin, Alānu.

[1] Ohun ti āyah yi kò ni ni wípe ka ma fi wípe a ti fi Olóhun burá ḥe awawi lati ma ḥe işe rere tabi ohun ti o tō.

وَسَأْلُوكُمْ عَنِ الْمُجِيْصِ قُلْ هُوَذِي  
فَأَعْتَرُلُوا النَّسَاءَ فِي الْمُجِيْصِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ  
حَقَّ بَطْهَرَنَ فَإِذَا أَطَهَرْنَ فَأُتُوهُنَّ مِنْ حِيْثُ  
أَمْرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَبَيْنَ  
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿١٦﴾

نَسَأْلُوكُمْ حَرْثَ لَكُمْ فَأُتُوهُنَّ حَرْثُكُمْ أَنَّ شِيْئَمْ  
وَقَدِمُوا لِأَنْشِيْكُمْ وَأَتَعْوَلُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ مُلْكُوْهُ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٧﴾

وَلَا جَحْمَلُوا اللَّهَ عَزْوَزَكُهُ لَا يَمْنَعُكُمْ  
أَنْ تَبْرُوْا وَتَسْقُوْا وَتَصْلِحُوا بَيْنَ أَنْاسٍ  
وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيْمٌ ﴿١٨﴾

لَا يُؤْخِذُكُمْ اللَّهُ بِالْغَوْيِ أَنْتُمْ بِكُمْ وَلَكُمْ بِمَا حَذَّكُمْ  
إِنَّكُمْ بَشَّرٌ قَلْوَبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٩﴾

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نَسَاءِهِمْ تَرْبُصُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ  
فَأَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

**227.** Şugbон bi nwọn ba pin-nu kikq silé, daju-daju Olqhun je Olugbóro, Olumò.

وَإِنْ عَمِّلُوكُمْ أَطْلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَيِّعُ عَلَيْمٌ

**228.** Awọn obinrin ti a kq silé yio ko ara wọn ro fun igba mëta. Kò tò fun wòn ki wòn fi ohun ti Olqhun da si apoqomq wòn pamq bi wòn ba gba Olqhun gbø ati qoj ikéhin; qkq wòn lo ni etq julq lati gba wòn pada l'asiko nã bi wòn ba fè atunse; o wa fun awọn obinrin lori qkq iru ohun ti o wa fun qkq wòn lori wòn pèlu dâda, şugbón ajulq si mbé fun awọn qkunrin lori wòn. Olqhun si je Alagbara, Qlogbón<sup>[1]</sup>.

وَالْمُطْلَقُتُ يَهْبَطُ بِأَنْفُسِهِنَّ مُلْكَهُ فَرُوعٌ  
وَلَا يَحْمِلُهُنَّ أَنْ يَكْمِنَ مَا حَلَّكَ اللَّهُ فِي أَرْجَامِهِنَّ  
إِنْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعِلَمِهِنَّ حَقٌّ  
يُرِدُّهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنَّ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ بِشُّ  
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِرَجَالٍ عَنْهُنَّ دَرْجَةٌ  
وَلَئِنْ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

**229.** Ikò silé ẽmeji ni, ç mu wòn dani pèlu dâda tabi ki ç fi wòn silé pèlu dâda, kò si tò fun nyin pe ki ç gba nkan kan (pada) ninu ohun ti ç fun wòn, ayafi ti awọn mejéji ba mbéru pe wòn kò ni le duro ni énu-älà Olqhun. Bi ẽnyin na (alatunse) ba mbéru pe awọn mejéji kò ni le duro ni énu-älà Olqhun nigbana kò si ibawi fun awọn mejéji nipa ohun ti (aya) ba fi şe irapada ara rè. Awọn wonyi ni awọn énu-älà Olqhun, ç ma şe ré-koja wòn, énikeni ti o ba si re awọn énu-älà Olqhun koja awọn yi ni alabosi.

أَطْلَقَ مَرَّتَانِ فَإِنْسَاكُ يُعْمَلُ وَفِي أَنْتَرِيجٍ  
يُلْحَسِنُونَ وَلَا يَحْمِلُ لَهُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
إِنْ يَمْهُونَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخْفَى أَلَا يَعْلَمُ سَاحِدُوهَا  
اللَّهُ فَإِنْ خَفْتُمُ الْأَيْمَنَيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِ سَافِقًا أَنْفَدْتُ بِهِ تَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا  
وَمَنْ يَعْدَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكُهُمُ الظَّالِمُونَ

[1] Igba mëta na ni işe nkan-oşu lëmëta: kò gbodq gbe oyun ti o ni fun qkq pamq nitoripe ijà de lärin on ati qkq rè. Irufé etq ti awọn qkq ni le awọn obinrin wòn lori na ni awọn obinrin ni le awọn qkq wòn lori şugbón qkunrin ni lati şe ifarada ju awọn obinrin lò.

**230.** Bi on (oko) ba kɔ iyawo silè, lèkèta kò tɔ fùn mɔ lèhinna titi yio fi fè oko miran. Bi on (oko keji) ba kɔ silè, kò si ibawi fun awon mejéji pe ki wòn pada si qdɔ ara wòn bi awon mejéji ba ro pe awon le duro ni ènu-ala Qloqun. Awonyi ni awon ènu-ala Qloqun ti O se alaye rè fun awon enia ti o mò.

**231.** Nigbati è ba kɔ obinrin silè ti wòn ba de opin igba wòn, yala ki è mu wòn dani pèlu dàda tabi ki è ju wòn silè pèlu dàda. È ma mu wòn dani niti ipalara nitori ki è le koja ènu-älà. Èniti o ba se bë dajudaju o ti bo ori ara rè si. È ma mu ãyah Qloqun ni yèyè. È ranti òre-ajulò Qloqun ti o se fun nyin. Ati ohun ti Qloqun sòkalè fun nyin ni tira ati oye ijinkè ti O fi nse ikilò fun nyin. È bëru Qloqun ki è si mò pe dajudaju Qloqun ni Olumo gbogbo nkan<sup>[1]</sup>.

**232.** Nigbati è ba si kɔ awon obinrin nyin silè, lèhinna ti nwòn ba si de opin igba wòn, è ma se kɔ fun wòn lati fè awon oko wòn nigbati wòn ba ti yonu si ara wòn niti dàda. Eyi ni a fi nkilò fun èniti o ba jè olu-gba Qloqun gbø ninu

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لِلرَّمَضَانَ بَعْدَ حَقِيقَتِنَكَحْ رَوْجًا  
غَيْرُهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَرْجِعُاهُنَّا  
ظَلَّنَا أَنْ يُقْسِمَا حَدُودَ اللَّهِ وَتِنَكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا  
لِعَوَّامٍ يَعْلَمُونَ

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَنْجُلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ  
يُعْرُوفٌ أَوْ سَرِحُوهُنَّ مُعْرُوفٌ وَلَا تُشْكِوْهُنَّ  
ضَرَارًا لِنَعْدِنَدُوا وَمَنْ يَنْعَدِنَدُ ذَلِكَ فَنَذَرَ ظَلَمَةً فَقَسْمَةً  
وَلَا تَنْخُذُوهُنَّا إِنَّ اللَّهَ هُنَّا وَإِذْ كُرْوَا يَقْسَمَتْ  
اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلْتُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ  
وَالْحِكْمَةُ يَعِظُكُمْ بِهِ مَا وَأَعْلَمُ  
وَأَغْنَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

لَا يَعْلَمُونَ

[1] Alaye ãyah yi ni pe ti awon o binrin na ba sunmò opin akoko wòn, eyi ni pe larin oшу meji si mèta, è le fè wòn pada tabi bi è kò ba ni wòn fè mò ki è jè ki wòn mā lò ni ti dàda.

yin ati oqo ikéhin. Eyi ni o dara ju fun yin ti o si mó. Olóhun ni Olumò ati pe ényin kò mó<sup>[1]</sup>.

**233.** Ati awon abiyamò ma fun awon òmò won lòmu mu ni ọdun meji gbako fun èniti o ba fè se asepe ti ifun òmò lòmu mu; ijé, imu ati aşò ni wiwò won se òranyan fun èniti won bi-mò fun ni ọna etò. A kò gbe e kò èmi kan l'orun ayafi iba agbara rẹ. A kò gbodò ni abiyamò lara nitori òmò rẹ, bẹ si ni a kò gbodò ni baba lara nitori òmò rẹ pèlu nitori iru eyi na se òranyan fun èniti yio jẹ ogun. Bi awon mejéji ba si fè ja òmu l'enu òmò ni ipanu po awon mejéji ati işe aşaro, kò si èşé fun awon mejéji. Ati bi è ba si fè fi awon òmò yin fun alagbatò, kò si èşé fun nyin nigbati è ba ti fun won ni ohun ti è fè fun won, ki è si bẹru Olóhun, ki è si mó daju pe Olóhun ri ohun ti è nṣe.

**234.** Ati awon ti o kú ninu yin ti won si fi awon iyawo silè, awon obinrin na ni lati kora ro fun oṣu mérin ati oqo mewa; lèhinna nigbati nwọn ba de opin igba won kò si èşé

وَالْوَلَدَتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَادَهُنَ حَوَّلَنَ كَامِلَيْنِ  
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُمْكِنَ الْأَرْضَ نَاعَةً وَعَلَى الْوَلَدِ لَهُ يُنَهَّى  
وَكِنْوَتُهُنَ مَلْعُونَ لَا تُكَفَّنُ نَسْكُ إِلَّا وُسْهَانًا  
لَا نُضْكَارَ وَلِلَّهِ ثُبُولَهَا وَلَا مُنْلُودَهُ بِوَلَدَهُ  
وَعَلَى الْوَارِثَ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ افْصَالَهُنَّ  
رَأَضِنَ وَهُنْمَا وَنَسَارُ فَلَا جُنَاحَ عَنْهُمَا وَلَنْ أَرْدِمْ  
أَنْ سَرَّضَعُوا أَوْلَادَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْنَكُمْ إِذَا  
سَلَمْتُمْ مَا أَئْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّنُ مِنْكُمْ وَيَدْرُوْنَ أَرْوَاحَهُمْ يَرَبَّصُنَ  
بِأَنْفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغُنَّ  
أَجَلَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي  
أَنْفُسِهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَيْزٌ

[1] Idi ti ãyah 232 yi fi sòkalè ni pe ara-binrin «Makalu» òmò «Yasari» ti ọkọ rẹ kò silè, ọkọ na si fè da pada si ọdq; Makalu òmò Yasari si kò fun pe ki o maše pada si ọdq ọkọ rẹ na mó. O un ni Oluwa fi ãyah yi sò fun awon alaše obinrin pe ki won ma se kò fun won mó. Nitoripe ọkọ won ti akokò ni oni etò julò lati gba won pada.

fun nyin nipa ohun ti wọn ba şe  
fun ara wọn ni ọna eto. Beşini  
Qloahun ni O ni iro ohun ti e nşe<sup>[1]</sup>.

**235.** Kò si eşe fun nyin nipa  
ohun ti e ba pęşo ni ti iiba awon  
obinrin na şorö tabi e ti e fi pamö  
sinu emi nyin; Qloahun si mo pe  
çomä ranti wọn. Sugbon e ma si ba  
wòn şe adehun ni ikökö, ayafi ki e  
mä s'orö ti o dara ati ki e ma şe ta  
koko yigi ayafi ti asiko na ba de  
opin ati ki e si mo pe Qloahun mo  
ohun ti o wa ninu emi nyin;  
nitorina ki e şo'ra nipa rë ati ki e  
mo pe Qloahun ni Alaforijin, Olu-si-  
ara-da<sup>[2]</sup>.

**236.** Kò si eşe fun nyin ti e ba  
ko awon obinrin nyin silë la i ti fi  
qwo kòn wòn, ti e kò i si ti fi qwo  
şe ohun-qranyan kan fun nwòn, ki  
e si pese fun nwòn. Awon ti nwòn  
ni gegëbi agbara nwòn ti mo: ki  
eniti kò ni mä şe gegëbi agbara rë

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ  
النِّسَاءِ وَأَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلَيْمَ اللَّهِ  
أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُونَ هُنَّ لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ  
سِرًا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا  
عُنْدَهُ أَنْتَ كَا حَقَّ يَبْلُغُ الْكِتَابُ أَجَلَهُ  
وَأَعْلَمُو أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ  
فَأَخْذُ رُوْهُ وَأَعْلَمُو أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ



لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَسْوِهْنَ  
أَوْ تَفْرِصُوهُنَّ فَإِيْضَهُ وَمَتَعُوهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ  
قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُفْتَرِ قَدَرُهُ مَتَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًا  
عَلَى الْمُحْسِنِينَ



[1] Ayah yi ni Oluwa fi npa la'se fun awon obinrin pe ki wòn mä ko  
ara ro fun oṣu mérin ati qjo mewa lèhin iku ọkq wòn. Nigbati wònba  
jade ko si eşe fun wòn lati fę ọkq miran. Idi eyi ni pe Qloahun ko fę ki  
awon obinrin gbe oyün ọkq wòn lò fun çlomiran. Boya ki ọkq t'oku  
oyün ti wa lara iyawo rë na. Ikoararo yi ni awon Musulumi npe ni  
«Opo» eniti ọkq rë ku (Iddat).

[2] Ayah yi nkq wa bi o ti yę ki a mä ba awon obinrin ti o wa ninu  
opo s'orö ni ọna ḥrø. Otun pa laşe fun wa pe a kò gbqdø la fisf mqlè  
fun obinrin ti o nşe opo lqw tabi ba wòn lo pø nigbana pèlu, ayafi ki  
a ma pę sò fun u; nitorina ni Oluwa şe kq wa ni ọna ti a o gba mä sò  
q; tabi ki enia şe rere fun nwòn titi ọkàn nwòn yio sò fun nwòn pe  
tabi o fę fę on ni.

ti mə. O je igbadun fun awon ti o kən ni qona ətə; o si tun je əranyan fun olu-şışe rere<sup>[1]</sup>.

**237.** Ati bi ənyin ba kə nwən silə şiwaju ki ə to fi əwə kən nwən bə si ni ə ti bu əranyan kan fun nwən; nitorina idaji ohun ti ə ba bu ni əranyan ni ki o mā je ti wən, ayafı ti wən ba şe amoju kuro tabiki ənitit ita koko yigi na ba wa ni əwə rə şe amoju kuro ati pe ki ə şe amoju kuro l'o sunmə ibəru Qləhun; ati ki ə ma şe gbagbe əla ti arin nyin. Dajudaju Qləhun ni Oluri ohun ti ə nṣə<sup>[2]</sup>.

**238.** Ki ə ma şo awon irun pāpa irun ti ārin; ki ə si dide duro fun Qləhun ninu irun, ki ə si tə ori nyin ba fun U<sup>[3]</sup>.

**239.** şugbən ti ənyin ba mbəru əta, ki əma ki irun nyin lori irin tabi lori rakunmi; nigbati əkən

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمُوهُنَّ فَرِصْنَهُ فَيُنَصَّفُ مَا فَرَضْتُمُهُ لَاَنْ يَعْقُوبَنَ أَوْ يَعْقُوبُ الَّذِي يَسِدُهُ عَدَدَهُ الْتِكَاجُ وَأَنْ تَعْقُوبُ أَقْرَبَ إِلَيْهِمْ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مُؤْمِنَوْنَ

بَصِيرٌ

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوةَ الْوُسْطَى  
وَقُومُوا لِللهِ قَدِيرِينَ

فَإِنْ خَفَضْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكَابًا فَإِذَاً مَنْ شَاءَ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَمْتُمْ كَمْ مَا مَأْمَنَ

[1] Âyah yi kə wa pe ki a mā fun awon obinrin ti a ba ti kə s'ilə ni nkan bi a kə ba ti fi əwə kən nwən tabi ti a kə ba ti bu əranyan kan fun nwən; ki a si fun nwən ni nkan gəgəbi agbara wa ba ti mə ki talaka ma şe ju agbara rə lə. Irufə awon o birin ba wən yi ni anpe ni Iyawo oju qona.

[2] Âyah yi pa laşə fun wa pe ti a ba kə awon obinrin silə lai kə ti fi əwə kən nwən ti a si ti bu əranyan kan fun nwən, idaji iye na ni ki a fun nwən ninu rə, ayafı ti nwən kə ba gbā tabi ti alaşə wən kə ba gbā tabi ti əkən ti o fun nwən ni owo na ko gba a pada mə.

[3] Âyah yi ntə'ka si irun ti ārin. Awon onitafsiru yapa ənu si ara nwən nipa rə. Apa kan şo pe Salatu Subhi, Salatu Suhuri, Salatul Asiri, Salatul Magrib ati Salatu Ishai; şugbən gbogbo wən nikəhin p'anu pə si Salatul Asiri (irun Alasari).

nyin ba ba'lè, ki ẹ mā ranti Qloqun  
gęębi O ti fi ohun ti ẹ kò mó mó  
yin.

**240.** Ati pe awọn ti o ba kú ninu nyin ti nwọn si fi awọn iyawo wọn s'ilè, ki nwọn sọ asotélè ti ipese fun awọn iyawo wọn titi di ọdun kan lai kò ni le wọn jade. Sugbọn ti wọn ba jade kò si ẹşé fun nyin nipa ohun ti nwọn ba şe fun ara wọn ni ọna ẹtọ. Bẽ si ni Qloqun ni Alagbara, Qloqbon si ni.

**241.** Ipese wa fun awọn obinrin ti a ba kò s'ilè bi agbara ba ti mó. O jẹ ṽranyan fun awọn olu-béru Qloqun.

**242.** Bayi ni Qloqun yio mā şe alaye awọn ami Rè fun yin ki ẹ ba le şe l'akaye.

**243.** Enyin kò ha ri awọn ti o jade ninu ile wọn nitori ibéru iku, egbegbérún ni wọn, Qloqun si sọ fun wọn pe: E ku. O si tun sọ wọn di aláye dajudaju Qloqun ni Olóre-ajulò le awọn enia lori, sugbọn ọpolopó awọn enia ki i dupé.

**244.** Ki ẹ si mā jagun ni oju ọna Qloqun ki ẹ si mó pe dajudaju Qloqun ni Olugbóro. Olumò.

**245.** Tani ẹniti yio win Qloqun ni ɔrò nî wîwîn ti o dara, On Qloqun yio di àdipèlè fun u nî adipele pupó? Qloqun A mā ko o

تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُوْنَ أَرْوَاحًا  
وَصَيْبَرًا لِأَرْوَاهِهِمْ مَتَّعِنَا إِلَى الْحَوْلِ عَيْنِ  
إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي  
مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

وَلِمُطْلَقَتِ مَنْعِ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُتَّقِيْبِ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ مَا إِنْتُمْ بِهِ  
لَعْلَمُ تَعْقِلُونَ

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَرِهِمْ  
وَهُمْ أُولُو الْأَيْمَانِ حَذَرَ الْمَوْتَ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُمَّ مُؤْمِنُ  
ثُمَّ أَخْرَجْتَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو قُصْلَى عَلَى النَّاسِ  
وَلَكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَيِّئُ  
عَلِيهِمْ

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفُهُ  
لَهُ أَضْفَافًا كَثِيرَةٌ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْقِي  
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

ro A si mā tē e silē (fun ḥenit O wu u) qdō Rē ni a o si da nyin pada si.

**246.** Iwō kò ha ri awon aşiwaju ninu awon ɔmɔ Israila ləchin Musa? Nigbati nwon wi fun Annabi won pe: Gbe ḥenikan dide fun wa ni ɔba, ki awa le ja loju ɔna ti Olóhun. O wipe: Njé kò ha le jé pe ti a bá pa laṣe fun nyin pe ki ḥenyin jà, ḥenyin ki yio jà? Nwọn (dahun) pe: Bawo ni awa şe le kò lati ja ni oju ɔna ti Olóhun, nigbati a ti le wa jade kuro ni ile wa ati larin awon ɔmɔ wa? Ṣugbọn nigbati a pa laṣe fun won lati jà, nwon pa ḥehin da, ayafi dię ninu won. Ṣugbọn Olóhun mo awon alabosi.

**247.** Annabi won so fun won wipe: Dajudaju Olóhun se «Taluta» ni ɔba fun nyin. Nwọn wipe: Bawo ni yio şe jé ɔba le wa lori, awa si ni eto si ɔba jijé ju u ló, a kò fun u ni igbaye ḥorô. O wipe: Dajudaju Olóhun ti sa a leşa fun nyin, O si ti şe alekun imo ati ara fun u. Olóhun a ma fi ijɔba Rē fun ḥenikeni ti O ba wu U. Olóhun ni Olugbaye, Oni-mimɔ.

**248.** Annabi won si wi fun won pe: Dajudaju ami ijɔba rē, on ni pe apotikàn ti ifaiyabalè mbé ninu rē yio wa ba nyin, lati qdō Oluwa nyin ati ohun ti o şeku ninu ohun ti awon ɔmɔ ḥehin Musa ati ɔmɔ

الَّمَّا تَرَى إِلَى الْأَنْوَارِ مِنْ تَحْيَةٍ إِنَّهُ مِنْ بَعْدِ  
مُوسَىٰ إِذَا قَاتَلُوا لِتَقْبِيلَهُمْ أَبْعَثَ لَنَّا مِنْكُمْ  
نَفْتَنَّلِ فِي سَكِينَةٍ وَالْمُؤْمِنُونَ هُلْ عَسِيْتُمْ إِنَّ  
كُلَّتِبَ عَيْنِكُمْ أَنْقَاتَنَا لَا أَنْقَاتُنَا كُلَّا  
وَمَالَنَا لَا أَنْقَاتَنَا فِي سَكِينَةِ اللَّهِ وَقَدْ  
أَخْرَجْنَا مِنْ دِيْرَنَا وَأَنْسَانَاهُ فَلَمَّا كَتَبَ  
عَلَيْهِمُ الْأَنْقَاتَنَا تَوَلَّنَا إِلَى الْقِلَامِ نَهَمْ  
وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِالظَّلَامِ يَرِيدُ  


وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ  
طَائُوتَ مَلَكًا قَاتَلُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ  
عَلَيْنَا وَعَنْ أَحَقَّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ  
سَعْكَةً مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَصَطَطَنَّهُ  
عَيْنِكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَهُ فِي الْعِلْمِ  
وَأَنْجَسَمْ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ وَسِعٌ عَكِيلٌ  


وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ إِيمَانَكُمْ  
أَنْ يَأْتِيَكُمْ أَنَّكُلُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ  
مَنْ رَبِّكُمْ وَيَقِنَّةً مَمَّا تَرَكَ مَا لَمْ يُؤْسَدْ  
وَإِنَّ الْمُكَدِّرُونَ تَحْمِلُهُ الْمُكَبِّكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَذِيْنَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  


éhin Haruna fi silé, awon malaika yio ru u; dajudaju ami kan mbé ninu eyi fun nyin bi ç ba je onigbagbó.

**249.** Nigbati «Talutu» jade pélù awon ọmọ ogun na, o wipe: dajudaju Olóhun yio fi odo kan dan nyin wô, énikéni ti o ba mu ninu rè kòsi ninu awon éni mi, sugbón éniti kò ba tò o wò dajudaju o mbé ninu awon éni mi, afi éniti o ba bu iwòn èkùnwó rè kan mu, sugbón nwòn mu u afi diè ninu wòn. Sugbón nigbati nwòn sôda rè, on ati awon éniti o gbagbó pélù rè, nwòn wipe: Kòsi agbara fun wa loni si Jaluta ati awon ọmọ ogun rè. Awon éniti o mọ amódaju pe awon yio pade Olóhun wipe: Melo-melo ijò (ogun) kekere ti nṣegun ijò (ogun) nlá pélù aşé Olóhun, Olóhun si mbé pélù awon onisuru.

**250.** Nigbati nwòn jade si Jaluta ati awon ọmọ-ogun rè, nwòn wipe: Oluwa wa, rø (ojo) suru le wa lori ki O si fi eṣe wa rinlè shinshin ki O si ran wa lówó le awon alaigbagbó lori.

**251.** Nwòn si şegun wòn pélù aşé Olóhun. Dauda si pa Jaluta, Olóhun si fun u ni ijøba ati ogbón, O si kò o ni imø ohun ti o wu U. Atipe bi kò ba je pe Olóhun nfi

فَلَمَّا فَصَلَ طَلَوْتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ  
مُبْتَلِكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيَسْ  
مِنْيَ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مُبْتَلٌ إِلَّا مَنْ أَعْرَفَ  
عِرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا وَمِنْهُمْ  
فَلَمَّا جَاءَ زَوْهَرَهُ هُوَ وَأَذْيَرَ  
أَمْنُوا مَعْكَهُ  
فَكَانُوا لِلْأَطَاقَةَ لَئِنَّ الْيَوْمَ بِجَاهُولَتِ  
وَجُنُودِهِ  
قَالَ الَّذِينَ يَطْلُونَ أَنَّهُمْ  
مُلْكُوَاتُ اللَّهِ كَمْ مِنْ فَتَةٍ فَلِيَلَّةٍ غَبَّتْ  
فَتَةٌ كَشِيدَةٌ بِيَدِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
مَعَ الْأَصْكَارِينَ

وَلَمَّا بَرَزَ الْجَاهُولَتُ وَجُنُودُهُ قَالُوا  
رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبَرًا وَكَيْتَ أَقْدَامَنَا  
وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

(١٤)

فَهَذِهِ شُوْهُمْ بِيَدِنَ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُدْ  
جَاهُولَتُ وَأَكْثَرَهُ اللَّهُ الْمُلْكُ  
وَالْجَنَّمَةَ وَعَلَمَهُ وَمَا يَاشَأَ وَلَوْلَا  
دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بِعَصْمَهُمْ بِعَصِّ

apakan enia dabobo apakan won ni dajudaju ilè na ibá bajé, sugbón Olóhun jé Olóla si gbogbo éda.

**252.** Iwonyi ni ãyah Olóhun, Awa ke won fun o pélu ododo; dajudaju iwó si mbé ninu awon ojisé (Olóhun).

**253.** Awon ojisé wonni, A gbe apakan nwón ga ju apakan ló<sup>[1]</sup>; o mbé ninu won ti Olóhun mba s'oró. O si gbe apakan won ga ni iyi. A si fun Isa ómò Maryam ni awon ami ti o yanju; A si ran a lówo pélu émi mimó. Bi Olóhun ba fé ni, awon ti o wa lèhin won ki ba ti ba ara won ja lèhin igbati ami ti o yanju ti de wa ba won. Sugbón nwón sé iyapa énu (arin ara won). O mbé ninu won awon ti won gbagbó; o si mbé ninu won awon ti won sé aigbagbó. Bi Olóhun ba fé ni, nwón ki ba ti ba ara won já; sugbón Olóhun A mā sé ohun ti o wu U.

**254.** Ènyin ti é gbagbó, è mā ná ninu awon ohun ti A pa l'ese fun

لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكَيْنَ اللَّهُ  
ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَكَلَمِينَ

تِلْكَ أَيْنَتِ اللَّهُ تَنَاهُ عَلَيْكَ إِلَحْقٌ  
وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

• تِلْكَ أَرْسُلُ فَصَنَّا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ  
مَنْ كَلَمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا  
عِيسَى ابْنَ مَرِيمَ أَلْبَيْنَتْ وَآيَدَنَّهُ بِرُوحِ  
الْمُدْنِسْ وَلَوْسَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنَ الَّذِينَ  
مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاهَتِهِمْ أَلْبَيْنَتْ  
وَلَكِنْ أَخْتَلَعُوا فِيهِمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ  
وَلَوْسَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنُوا وَلَكِنْ اللَّهُ يَعْلَمُ  
مَأْرِيدُ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مَمَارِدَتْكُمْ

[1] Awon ojisé Olóhun, agbe apa-kan won ga ju apakan ló. Lotó Islam kó wa ki a gba gbogbo awon ojisé Olóhun gbó. O si kó wa ki a ma ya ókan kan s'otó ninu won (Sura II ayah 136). Sugbón o nfi han wa nibi yi wípe gége bi işe ti a gbele won l'owó ati awon enia ti nwón mā jíse fun ti yatò si arawon si, béní agbara won ti yatò si ara won.

Èmi mimó ti a wi nibi yi ni Mòlaika Jibril ti a fi ran anabi Isa l'owó gégebi a ti fi ran awon Anabi iyoku l'owó nipa pe on ni o nmu işe lati qdó Olóhun wa fun awon ojisé.

yin<sup>[1]</sup> şiwaju ki ojo kan to de eyi ti kò si òwo şise ninu rè, bëni kò si ojé bëni kò si işipé, awon alaigbagbo awon ni alabosi.

**255.** Olóhun; kò si Olóhun miran ayafi On, Aláye, Oludawa, ki ntorugbe, bëni ki nsun. Ti Rè ni ohun gbogbo ti o wa ni sanmò ati ohun gbogbo ti o wa ninu ilé. Tani éni ti o le şipé lòdò Rè, ayafi pëlu aşé Rè. O mò ohun ti o mbé ni waju wòn ati ohun ti mbé lèhin wòn, nwòn kò si le rø kirika kinikan ninu imò Rè ayafi ohun ti O ba fè, aga (qla) Rè gb'aye ju awon sanmò ati ilé lò. Işó awon mejéji kò si ko ãrè ba A. On ni Éni ti O ga (ni qla) ti O si tobi (ni ogo).

**256.** Kò si ifi agbara mu ni ninu ésin. Qna otitò ti farahan kuro ninu qna işina. Nitorina éni ti o ba kò èshù (Togüti) ti o si gba Olóhun gbø, o gba okun ti o yi ti kòle ja mu. Olóhun ni Olugbø, Olumò.

**257.** Olóhun ni Alaféhinti awon éni ti o gba Olóhun gbø. O nmú wòn kuro ninu okunkun lò sinu imolé şubgòn awon ti kò gbagbo awon èshù (Togütu) ni awon alaféhinti wòn. Nwòn nmú wòn lati inu imolé lò sinu okunkun. Awon

مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ الْآبِيعِ فِيهِ وَلَا حَلَّ  
وَلَا شَفَعَةُ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ  
وَلَا يَوْمَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ دَأَ  
الَّذِي يَشْفَعُ عَنْهُ إِلَّا بِإِنْزَهَهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ  
أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُجْعِلُونَ يَشْفَعُ  
مَنْ عَلِمَهُ إِلَّا يَمْشِيَهُ وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضُ وَلَا يَنْهَا دُهْرٌ حَفَظَهُمْ وَهُوَ الْعَلِيُّ

الْعَظِيمُ

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدَّبَنَ الرُّسُدُ مِنَ الْأَعْيَ فَمَنْ  
يَكْفُرُ بِالظَّلَّمَوْتِ وَيَوْمَنْ يَاللهُ فَقَدْ  
أَسْتَسْكَ بِالْعَرْوَةِ الْوُطْقَنِ لَا أَنْفَصَمْ لَهُ وَاللهُ  
سَيِّعُ عَلَيْم

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ  
إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلَئِكَ أَفْهَمُ  
الظَّلَّمَوْتِ يُخْرِجُهُمْ مِنَ النُّورِ  
إِلَى الظُّلْمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَبُ  
النَّارِ إِنَّمَا فِيهَا حَذَلُوْنَ

[1] Ki é mā na ninu awon ohun ti a pa lese fun yin ni dukia, alafia ara tabi imò fun işe rere fun awon éda Olóhun ati fun iloşiwaju ésin Islam. Nkan ti a ni ikapa rè ni Olóhun ni ki a mā na ninu rè.

wønni ἑni ina ni wøn. Nwøn yio gbe inu rø gbere.

**258.** Iwø kò ha wo'ye nipa ἑni ti o mba Ibraheem jiyan<sup>[1]</sup> nipa Oluwa rø, nitoripe Qloahun ti fun u ni ijøba? Nigbati Ibraheem wipe: Oluwa mi ni ἑni ti nse ãyè, ti si nse oku, on wipe: ‘Emi nse ãyè, emi si nse oku’. Ibraheem wipe: ‘Dajudaju Qloahun ni nmu orùn wa lati ilorùn, njø iwø mu wa lati iwø-orùn. Bayi ni A ko idāmu ba ἑni ti kò gbagbo na. Qloahun ki i tø awøn alabosi enia s’øna.

**259.** Tabi o dati ἑni ti o kɔja ninu ilukan, ti o wo lulø lori aja rø<sup>[2]</sup>. O wipe: Bawo ni Qloahun yio şe sq (ilu yi) di ãye lèhin iku rø? Qloahun si sq on na di oku fun ɔgɔrun ɔdun, lèhinna O si gbe dide. O wipe: ‘Igba wo l’oti wa nihin? On (enina) wipe: ‘Mo wa

أَنَّمَا تَرِكَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ  
أَنَّهُ أَتَاهُ اللَّهُ أَمْلَاكَ كَيْدَ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّي  
الَّذِي يُخَيِّهُ وَيُعَيِّنُ قَالَ لَنَا أُخْيِي وَأُعَيِّنُ  
قَالَ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّكَ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّفَاعَةِ  
مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتَى هِمَانَ الْمَغْرِبِ فَهُمَّتِ الَّلَّهُ  
كُفَّرُوا لَهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

[1] ἑni ti o mba Ibraheem jiyan nipa Oluwa Rø ni awøn kan ninu awøn oni tafsiru pe ni Namrudu. On jø qba ti o kankà ti o si ya poki ni igba Annabi Ibraheem.

[2] «Ilu ti o wo lulø kan aja rø» ni awøn oni-tafsiru pe ni Baitul Makdis (Jerusalem) ti Nebehandnessar sq di ahoro ni 599 B. C. Awøn ohun ti a se apejuwe wønyi şelø ni oju-iran si Ojisè Qloahun Isikilu ni pa wipe ti o ba gba agbegbe ilu yi kɔja lèhin igbati a ti mu ilu na ni ेrù ti o si ri ọpøløpø ohun meremere ti a ti sq di egbe, yio mā ro ninu ara rø pølu েdun ɔkan pe nigbawo ni Qloahun mā şe adapada awøn nkan wønyi. Oluwa wa fi han ni oju’ran wipe yio to ɔgɔrun ɔdun ki awøn nkan wønyi to le pàda si ipo wøn ati wipe ti ɔrø ba jø bi o ti jø yen, pølø-pølø ni o şe mā to padas’ipo nitoripe Oluwa ni agbara lori ohun gbogbo.

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عِرْوَشَهَا  
قَالَ أَنَّى يُعَيِّنُهُ كَذَنْدَهُ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِنَاهُ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ  
مَائَةً عَامَ شَمَّ بَعْثَةً فَقَالَ كَمْ لِيَشَّتْ قَالَ لِيَشَّتْ  
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَقَالَ بَلْ لِيَشَّتْ مِائَةَ كَعَابًا  
فَأَنْظَرَ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسْنَهُ  
وَأَنْظَرَ إِلَى حَمَارِكَ وَلِجَعْلَكَ مَا يَكْسِبُ

nihil fun ojo kan tabi abo ojo. On (Olóhun) wípe: ‘Bé-kó, iwó ti wa nihil fun ogórun ódun; njé wo onjé rẹ ati omi rẹ; ko yi pada! Ki o si wo kẹtékétep rẹ; ki a le ba fi o şe ami fun awon enia, si wo awon egungun na, bawo ni A ti şe to wón jō pō, lèhin igba na ti A si fi èran bo wón’. Nigbati o han si i o wípe: Emi mō wípe dajudaju Olóhun ni agbara lori ohun gbo-gbo.

**260.** Ati nigbati Ibraheem wípe: ‘Oluwa mi! Fi han mi bi O ti ma şe sō oku di ãye. On (Olóhun) wípe: ‘Iwó kò ha gbagbó ni? On (Ibraheem) si wípe: ‘Béni, Sugbón ki ɔkan mi le ba lè ni’. On (Olóhun) wípe: ‘Njé mu mérin ninu awon ciyé ki o si fi wón mō oju rẹ lèhin igbana fi apakan wón si ori oke kókan lótóto, lèhinna ki o pe wón, nwón yio si yara tó o wa. Ki o wa mō wípe Olóhun ni Alagbara, Ológbón.

**261.** Apejuwe awon éni ti o nna owò wón si oju-óna Olóhun, o da bi eyó igbado kan ti o hu şiri meje, ti ogórun eyó si wà ninu şiri kókan. Olóhun A mā şe alekun ni ilópo fun éni ti O ba wu U. Olóhun gbaye (ni funfun ni) (O si jé) Olumò.

**262.** Awon éni ti nna owò wón si ɔná ti Olóhun, ti nwón kò si fi

لِلنَّاسِ۝ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُ هَائِمَّا نَكْسُوهَا لَحْمًا فَمَا تَبَيَّنَ  
لَهُ۝ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
﴿٦﴾

وَإِذَا قَالَ إِنَّ رَبِّيَ كَيْفَ تُنْعِي  
الْمَوْتَ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ  
لِيَطْمِئِنَ قَلْبِي۝ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةَ مِنَ الظَّيْرَ  
فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ  
جُزْءًا أَثْمَادُهُنَّ يَا تَبَيَّنَكَ سَعْيَهُنَّ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
﴿٧﴾

مَثُلُ الدِّينِ يُنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
كَمْثُلَ حَبَّةٍ أَبْنَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ  
سَبْلَةٍ مَائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُصْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلَيْهِ  
﴿٨﴾

الَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُنْتَهُونَ

مَا أَنْفَقُوا مِمَّا لَأَذْهَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
وَلَا يَحْوِفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْرُثُونَ ﴿٦٩﴾

iregun ati ipalara tèle e, çasan wọn mbé fun wọn ni ọdó Oluwa wọn ibéru kò ni si fun wọn, bẹni nwọn ki yio banuje.

**263.** Gbolohun rere ati aforijin dara ju ọrẹ ti a fi (iwa) ipalara tó lèhin lọ; Qloahun ni Oloró, Onifarada.

**264.** Ènyin ti è gbagbó! È ma şe fi iregun ati ipalara ba ọrẹ nyin jé gegébi èni ti nna ihun-ini rè fun oju-aiye, ti kò si gba Qloahun ati ojó ikéhin gbó, apejuwe rè o dabi apejuwe apata kan ti erupé mbé lori rè ti ojo nlanla si ró le e lori ti o si sò di pandanran; nwọn ki yio ni agbara lati jere kini kan nipa ohun ti nwòn şe n'işé; Qloahun ki yio si tó awon alaigbagbó enia si ọna<sup>[1]</sup>.

**265.** Apérè awon èni ti nwòn si nna ohun-ini wòn lati fi wá iyónu Qloahun ati (fun) iduro-şinşin-ókan wòn, o dabi ọgba kan ti mbé ni ibi ilé-oke kan ti ojo nla si ró si i, o si (fi) mu eso rè jade ni ilópo meji; bi ojo nla kò ba tilé ró si i, nigbana iri (sisé to fun u); Qloahun si ri ohun ti ènyin nse<sup>[2]</sup>.

فَوْلَ مَعْرُوفٍ وَمَغْفِرَةً خَيْرٍ مِنْ صَدَقَةٍ  
يَتَّبَعُهَا آذَىٰ وَاللَّهُ عَنِ الْحَلِيمِ ﴿٦٩﴾

يَتَّبَعُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يُطِلُّو أَصَدَقَاتُكُمْ بِالْمَنِ  
وَالْآذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَا لَهُ رِبَّهُ أَنَّ النَّاسَ  
وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَأَيْمَوْرُ الْأَخْرَفَشْلُ، كَشْل  
صَفْوَانُ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ، وَأَبْلُ فَرَّكَهُ  
صَكْلُدُ لَا يَقْدِرُوكُ عَلَى شَيْءٍ وَمَمَّا كَسَبُوا  
وَاللَّهُ لَا يَهِيدُ الْقَوْمَ الْكُفَّارِ ﴿٦٩﴾

وَمَتَّلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ كَمَا أَمْوَالُهُمْ أَبْيَقَاهُ  
مَرْضَكَاتِ اللَّهِ وَتَشَيَّبَ إِنَّ أَنْفُسَهُمْ كَشْل  
جَكْتَبِ بَرْزُوقَهَا وَأَبْلُ فَكَاتَ أَكْلَهَا  
ضَعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصْبِنَهَا وَأَبْلُ قَطْلُ  
وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦٩﴾

[1] Ohun ti ãyah yi kò ni nipe gegébi èniti o gbin nkan s'ori apata kò ni ni eso, bẹni èniti o şe ore nitorí oju-aiyekarimi kò ni ni çasan.

[2] ãyah yi fi inawo-nara pélú aniyán lati wa iyónu Qloahun we gbigbin nkan si ilé ti o ni ɔrà.

**266.** Okan ninu nyin ha nfę pe ki ọgba kan mă bę fun on bi? ti o ni opędabinu ati ajara ti odo nşan n'isalę rę ti o si ni orişirişi eso ninu rę, ti ogbó si de si on (oluwa ọgba) na, o si ni awon qmę (kēkeke) ti kò ni agbara kan, bęni atęgun-aja ti ina mbę ninu rę si wa ba a, o si j'ona; bayi ni Olıahun şı awon ami na paya fun nyin ki ę ba le ronu.

**267.** Enyin ti ę gbagbę Ę mă ná ninu ohun ti o dara ninu eyiti ę şe n'işę ati ninu ohun ti Awa mu jade fun nyin lati inu ilę, ę ma şe ronu kan eyiti kò dara ninu rę lati fi t'orę, bęni enyin na kò ję gba a afi ki ę (mومو) mojukuro ninu rę; ki ę si mō dajudaju pe Olıahun ni Olörö, Olutoyin.

**268.** Èşu nfi oşı dęruba nyin o si nforo nyin lati hu'wa ibaję (bi ahun şise) bęni Olıahun si şe adehun asorijin fun nyin lati ọdq ara Rę ati opolopq-орę; Olıahun si ni Olugbaye-орę, Olumq.

**269.** On nfun ęniti owu U ni oyeijinlę, ęniti a ba sifun ni oye ijinlę, on gan ni a fun ni ore ti o po, ęnikan ki yio ranti (eyi) bi koşe awon oniläkaye.

**270.** Ohunkohun ti ę ba fi t'orę ninu ohun it'orę tabi ęję ti ę ba ję

أَيُوْدَ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ تَخْلِيلٍ  
وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِيمَةِ الْأَنْهَارِ.  
فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّرَبَاتِ وَأَصَابَاهُ الْكَبْرُ  
وَلَهُ دُرْرَةٌ ضَعْفَاءَهُمْ أَصَابَاهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ  
فَاحْرَقَتْ كَذَلِكَ بَيْتَ اللَّهِ لَكُمْ أَلَا يَكْتُبَ  
لَمَّا كُلْتُمْ تَقْرَبُونَ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَبِيعَتِ  
مَا كَسَبْنَاهُ وَمِمَّا أَنْجَنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا يَنْمِمُوا إِلَيْهِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْمَ  
يَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ تُنْهِمُوا فِيهِ وَآغْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
غَنِيٌّ حَمِيدٌ

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم  
بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ  
وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

يُؤْتِي الْحَكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ  
الْحَكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ حَبْرًا كَثِيرًا  
وَمَا يَدْعُكُمْ إِلَّا أَنْ لُوا أَلَّا لَكُمْ

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفْقَهٍ أَوْ تَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ

ninu ejé<sup>[1]</sup> kan, dajudaju Qlohung mò q; ki yio si oluranlqwó kan fun awọn alabosi.

فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِظَلَمِيْمٍ  
مِّنْ أَنْصَارٍ



**271.** Bi è ba şe afihan itoré-ānu nyin, o dara; bi è ba si fi pamò ti è si fisun awọn alaini, on ni o si dara julò fun nyin, yio si pa ninu iwa aburu nyin rę fun nyin, Qlohung ni Alakiesi gbogbo ohun ti è nşe.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيَعْلَمَهُنَّا هُنَّمَنْ تَعْفُوْهُنَّا  
وَتُؤْتُوهُنَّا الْفُقَرَاءَ وَهُنُّ خَيْرٌ لِّكُمْ وَلَا كُفَّارٌ  
عَنْكُمْ مِّنْ سَخِيْرَاتِكُمْ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَسِيرٌ



**272.** Imona wọn ki i şe iwò t'iré, şugbon Qlohung nfi ẹnikeni ti o wu U m'ona; ohunkohun ti ẹnyin ba si nâ ni rere fun (anfani) ara yin ni, è ki yio na ohun kan bi-kòşe lati fi wa oju rere Qlohung. Ohunkohun ti è ba si nâ a o san a pada fun nyin ni ékun-reré, à ki yio si şe abosi fun nyin.

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدًى هُنَّكُمْ وَلَكَنَّ اللَّهَ يَهْدِي  
مَنْ يَشَاءُ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ  
فَلَا نَقْسِمُكُمْ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا آتَيْتُكُمْ  
وَجَوَّالُ اللَّهِ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ حِيْرَيْرَةٍ  
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَنْظَلُونَ



**273.** (Oré-ānu) wa fun awọn alaini ti a se mò l'oju ọna Qlohung, nwọn kò le rin kakiri l'ori ilé, alaimokan nro wọn si qlórò nitorí iko'raró wọn n'ibi titoró. Iwò yio mò nwọn pèlu ami nwọn. Nwọn ki i tòrò lòwò awọn enia ni lemolemo<sup>[2]</sup>; ohunkohun ti è ba nâ

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَخْصَرُوا فَسِيلٍ  
اللَّهُ لَا يَسْطِيعُونَ ضَرَبَافَ الْأَرْضِ  
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ الْأَعْنَافِ  
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَعْلُونَ النَّاسَ  
إِلَحَافًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يُعْلِمُ



[1] Itumọ 'ejé' ni alukawani tabi ki enia şe adehun pe on yio şe nkan nigbatı oluwa-rę dä fun nkan na. Eyi ni pe bi Musulumi ba şe adehun o nilati mū u şe, nitoripe Qlohung kò fę ki a şe adehun ti a mò pe a kò ni mū şe.

[2] Ninu awọn ti itoré-ānu tò si ni eyi; awọn alaini ti o fi arā nwọn s'owò ti nwọn ki ntörö lati oju'le d'ojule gęęgbı awọn ti o fi ara nwọn jin l'oju-ọna Qlohung; ati awọn ti o wa ninu idamu qta ti nwọn kò ri bi a tiše.

ni rere, dajudaju Qlōhun je Olumô nipa r̄e.

**274.** Awon ti o nna owo nwon l'oru ati l'osan ni ikòkò ati ni'gbangba, esan nwon mbé fun nwon lqd̄ Oluwa nwon, ki yio si ibéru fun nwon, benni nwon ki yio si banuje.

**275.** Awon ti o njé èlé<sup>[1]</sup>, nwon ki yio dide bikoše gégébi idide èniti esu la mō'lè nipa ifi ɔwókan (r̄e). Eyi je bę, nitoripe nwon wipe owo-şise bi èlé lori; Qlōhun si ti şe òwo-şise ni etq̄ O si şe èlé ni ẽwq̄<sup>[2]</sup>. Ènikèni nigbanna ti ikilò ba de qd̄ r̄e lati qd̄ Oluwa r̄e ti o si s'iwo, njé t'iré ni eyiti o ti rekoya, qrān r̄e si mbé lqd̄ Qlōhun. Sugbon ènikèni ti o ba tun pada (si idi r̄e), ero ina ni awon wonyi i şe, nwon yio si mā gbe inu r̄e gbere.

**276.** Qlōhun yio mā di èlé kù,

[1] «Riba» ni a pe ni èlé o si je owo tole lori owo ti a ya enia. Islam lodi si owo èlé nitoripe ègun Qlōhun wa lori r̄e Musulumi si ni lati jinna si gbigba owo èlé.

[2] Qlōhun şe owo şise ni etq̄, o si şe owo èlé ni ẽwq̄ nitoripe nipa owo şise, awon enia mā nj'anfani ara nwon, ati èniti onta, ati èniti onra, awon mejéji lo ji jo njé afani ara nwon. Ati pe nipa owo ni awon ilu ati orilé-edé gbogbo ngba t̄-siwaju nipa asiki. Sugbon n̄se ni èlé ngbin iwa ɔdâjû, ole ati ahun si awon enia l'qkan. Bę sini Islam je pe ki a je oninurere, nipa bayi o fi çk̄o itq̄r̄-ânu k̄o wa nipa eyi ti a n̄se iranlqw̄ fun çlegbę wa ti ko ni lqw̄ to wa tabi ti o mbé ninu işoro. Sugbon dipo ki olowo-èlé ȳo ara-kunrin r̄e ninu işoro r̄e n̄se ni yio tubq̄ fi kun un. Eyi lo fa âyah ti o t̄ele eyi.

الَّذِينَ يُنْفِعُونَ أَمْوَالَهُمْ بِأَيْنِيلٍ وَالنَّهُ أَعْلَمُ  
بِمَا يَعْلَمُ إِنَّكُمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْإِيمَانَ لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا  
يَعْمُومُ الْأَذْرَى يَتَعَجَّبُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُتَّقِينَ  
ذَلِكَ إِنَّهُمْ قَاتُلُوا إِنَّمَا الظَّبَابُ مِثْلُ الْإِيمَانِ وَأَهْلَ  
الْأَلْبَيْعَ وَحْرَمَ الْأَرْبَاعُ حَمَاءُ وَمَوْضِنَةُ  
مِنْ رَبِّهِ فَأَنْهَمَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْتَ عَادَ فَأُنْتَ كَيْكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَلِيلُوْنَ

يَسْعَى اللَّهُ أَرْبَاعًا وَيُرِيُ الصَّدَقَاتَ وَاللَّهُ

yio si mā bu si itoré-ānu<sup>[1]</sup>. Olóhun kò fèran gbogbo alaimore, eleanor.

لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ إِنْ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَوَةَ لَهُمْ  
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا غُنْوْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَحْرُونَ

W

**277.** Dajudaju, awon ti o gbagbo ti nwọn si nṣe işe rere, ti nwòn si nkirun dede, ti nwòn si nyan ‘zakat’, ẹsan nwòn mbé fun nwòn lqdó Oluwa wọn; ki yio si ibéru fun nwòn, bení nwòn ki yio si banuje.

**278.** Ènyin ti è gbagbo, è bérú Olóhun, ki è si fi eyi ti o kù silé ninu élé bi ènyin ba jé onigbagbo ododo.

**279.** Sugbon bi è kò ba şe (be), nigbana ki è mā reti ogun lati qdó Olóhun ati ojisé Rè. Bi è ba pada kuro nibé, nigbana oju-owò<sup>[2]</sup> nyin yio jé ti yin. È ma şe ş'abosi, a ki yio si ş'abosi fun nyin.

**280.** Bi (onigbese na) ba jé èni ti ara nni ki è lò o l'ara di igbati yio rorun (fun un). Ati pe ki è fi t'oré (fun un) o dara ju fun nyin bi ènyin ba mó ni.

**281.** Ki è si bérú ojó kan ti a o da nyin pada ninu rè si qdó

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقْرُأُ أَلْهَمَهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ  
مِنَ الْأَيْمَانِ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

WA

فَإِنَّمَا تَعْمَلُو فَإِذَا نُوَحِّرْتُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَإِنْ تُبْتَمِنْ فَلَكُمْ رُؤْسُ أَمْوَالِكُمْ  
لَا ظَلَمُونَ وَلَا ظَلَمُوكُمْ

W

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَظَرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ  
تَصَدِّقُوا حِدَارَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

TA

وَأَنْتُمْ أَيُّهُمَا تُرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُؤْفَى

[1] Owo élé kò le ni ibukun ninu nitoripe ogun-ologun wa ninu rè; ohunkohun ti a ba si fi ogun-ologun ko jò dajudaju ko le ni ibukun bi ko şe iparun. Qré-ānu l'o nmú ibukun wò inu ohun-ini enia; élé a mā le ibukun jinna, a si mā fa iparun. Eyi ni al-Kurani alaponle tubò fi ye wa ninu sura XXX. ãyah 39.

[2] Eyi ti a pe ni «oju-owo» ni owo ti a ya enia gan pçlu ero pe ki o le si. Etò wa lati gba eyi pada, sugbon a kò gbodó gba élé kankan lori rè.

Olohung. Léhinna a o san olukuluku émi ni ekun-réré ésan işe ti o şe, a ki yio ş'abosi fun nwɔn.

**282.** Enyin onigbagbó ododo, nigbati ç ba jé gbese kan di akoko kan ti a yan, ki ç kó silé. Jéki akowé kó q silé larin nyin pélú etó, béri ki akowé ma şe kó lati kó q, gégébi Olohung ti fi mó q. Ki (akowé) o kó (q). Ki eni ti iwó gbese wa l'orun rè si pe e (fun akowé), ki o si bérú Olohung Oluwa rè ki o ma si şe din ohun kan kù ninu rè. Sugbón bi eni ti o jé gbese na ba jé alailoye tabi aláré-ókàn tabi kò le pe e fun ara rè, jéki onigbowó rè pe e pélú etó, ki ç si pe awon éléri meji ninu awon ókunrin yin ki wón jéri si i, sugbón bi ç kò ba ri ókunrin meji, ki ç wa ókunrin kan ati obinrin meji ninu awon ti ç fé pe ki nwón jé éléri; bi ókan ninu wón ba ş'ina (tabi gbagbe), ókan ninu wón yio ran ikeji l'eti. Ki awon éléri ma si şe kó (lati jéri) nigbati a ba pe nwón. Ki ç ma si şe k'áré lati kó q ko bá kere tabi ko pó pélú akoko rè. Eyi l'otó ju niwaju Olohung, o si daju ju fun éri, o si tun jé qna t'o mu ni sunmó ki ç ma şe'ye-meji, ayafi bi o ba jé qja tita ti o wa n'ilé ti ç nşe ni atowodowó larin ara nyin, kò si şe fun nyin bi ç kò ba kó q s'ilé. Ki ç si mā pe éléri si i bi ç ba nta'ja

كُلُّ شَفِقٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

يَأَيُّهَا الَّذِي كَمَا نَوْا إِذَا تَأْتَنَّتْ بِدِينِنَا لَمْ يَجِدْ  
مُسْكِنًا فَأَكْتَبْتُ لَهُمْ كَيْتَمْ كَيْتَمْ  
بِالْمَكْدُلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبْ كَمَا عَلِمَهُ  
الَّهُ فَلَيَكْتُبْ وَلَمْ يُمْلِلِ الَّذِي عَلِمَهُ الْعَوْنَى  
وَلَيَسْقِي اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّ كَانَ  
الَّذِي عَلِمَهُ الْعَوْنَى سَفِيمًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِعُ  
أَنْ يُبَلِّغُهُ فَلَيُمْلِلْهُ وَلَيَأْبَ إِلَيْهِ بِالْمَكْدُلِ وَلَا سَتِمْدُوا  
شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مُؤْلِمِينَ  
فَرَجُلٌ وَمَرْأَةٌ مَمَنْ تَرْضُونَ مِنْ الشَّهَدَاءِ  
أَنْ تَصِلَّ إِنْجَدُهُمْ مَافُدُّكَرْ إِنْجَدُهُمْ  
الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَةِ إِذَا مَأْدُعُوا وَلَا سَتِمْ  
أَنْ تَكْتُبُهُمْ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَيْهِمْ ذَلِكُمْ  
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَذَنَ  
الآتَرَنَّابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحْرَةً حَاطِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بِيَنْكَمْ فَلَيَسْ عَيْنَكَمْ جَنَاحٌ  
الْأَنْتَكْتُبُوهُمَا وَأَشْهِدُو إِذَا بَأْيَاعَشُ  
وَلَا يَضْكَأْرَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَلَمْ يَقْعُلُ أَفَانِهِ  
فُسُوقُ بِكَمْ وَأَتَقْوَا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكَمْ



اللَّهُ وَاللَّهُ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ

fun ara nyin. Ki ẹ ma si şe şe ipalara fun akowé tabi ẹléri<sup>[1]</sup>. Bi ẹ ba si şe (be) nigbana dajudaju ibajé ni fun nyin. Ki ẹ si bëru Olóhun. Olóhun si nkó nyin (ni ekó). Olóhun si je Olumó ohun gbogbo.

**283.** Atipe ti ẹ ba wa l'ori irin-ajo ti ẹ kò si ri akowé kan, nigbana ohun idogo gbigba dani l'okan; şugbon ti ẹnikini ba fi ọkan tan ẹnikeji, ki ẹni ti a fi ọkàn tan ki o da ohun ti a fi ọkàn tan a le lori pada, ki o si bëru Olóhun Oluwa rẹ, ki enia ma si fi ẹri pamó. Ẹnikeni ti o ba fi i pamó dajudaju ọkàn rẹ dá ẹşé. Olóhun mò ohun ti ẹnyin nṣe<sup>[2]</sup>.

**284.** Gbogbo ohun ti o mbé ni sanmọ ati ilè ti Olóhun ni. Ti ẹ ba şe afihan ohun ti o wa ni ẹmi nyin tabi ẹ fi pamó, Olóhun yio şí'ro rẹ fun nyin bi ẹ ba şe e; lèhinna yio fi orijin awọn ti O ba fẹ, yio si fi iyà je awọn ti O ba fẹ; Olóhun ni agbara lori gbogbo nkan<sup>[3]</sup>.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَايِتاً فَهُنْ مَقْبُوْضَةٌ فَإِنْ أَمْنَ بِعَصْمَكُمْ بَعْصًا فَلِيَوْدُ الَّذِي أَوْتُمُونَ أَمْتَتُهُ وَلَيَسْتَقِيَّ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكُنُمُوا أَلَّا شَهَدْتُمْ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ مَا إِثْمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا عَمَلُونَ عَلِيمٌ

لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدِوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيُعَذِّبُ لَمَنْ يَشَاءُ وَيَمْرِبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

[1] Ipalara ti a sò pe ki a mā şe şe fun akowé tabi ẹléri ni wípe ki o ma şe lò ba akowé tabi ẹléri lèhin ki o le gba abode lati yi iwe tabi yi ọrọ yala fun ẹni ti a ya l'owo tabi ẹni ti o ya ni l'owo.

[2] Áyah yi kò wa ki a şe iwe fun arā wa ti a ba fẹ ya'wo lqwó ara wa, ti a kò ba si ri akowé, njé ki a fi ohun-ini wa dogo ki a si pe ẹléri si, ki awọn ẹléri si şe dede. A tun le gba ohun idogo lqwó ẹni ti a fẹ ya l'owo bofẹ bi akowé wa ti a kò ba fi ọkan tan ẹni ti a fẹ ya l'owo. eyi je ofin ti Al-Kurani kò wa lati le mā fi ba ara-ẹni lò ati ki igbe si aiye wa ki o le dara ki o si ni alafia.

[3] Áyah yi fi-han wa pe nigbati a ti mò pe gbogbo ohun ti mbé l'orun =

**285.** Ojisé Olóhun nã gbagbo ohun ti a sò-kalé fun u lati ọdò Oluwa rè, bẹ́ sini awon onigbagbo. Olukuluku wọn ni o gba Olóhun gbó, ati awon Mòlaika Rè, ati awon tirà Rè, ati awon ojisé Rè; awa kò ya ṥakan si ọtọ ninu awon qjisé Rè. Nwọn sò wipe: Awa gbó a si tèle tabi a tériba; Oluwa wa, af'orijin Rè ni awa nt'oró, ọdò Rè ni a si mā pada si.

**286.** Olóhun kò gbe éru ti o ju ḥenikan lò le l'ori bi kò se bi agbara rè ti mò; ti rè ni anfani işe ti o ba se, ti rè na si ní iyà ohun ti o ba se. Oluwa wa ma mu wa ti a ba gbagbe tabi ti a ba se aşıse. Oluwa wa, ma se di éru ti o wuwo le wa lori bi irú eyi ti O di le awon ti o şiwaju wa Oluwa wa, ma se di ru wa ohun ti kò si agbara rè fun wa. Mojukuro fun wa. Ki O si se anu wa, Iré ni Alaféhinti wa, nitorina ki O ran wa lówó lori awon alaigbagbo enia<sup>[1]</sup>.

إِمَّا مَنْ أَنْزَلُهُ مِنْ رَبِّهِ  
وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ إِمَّا مَنْ يَأْتِيَ اللَّهَ بِمَا كَانَ  
وَرُسُلُهُ لَا تَنْفِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ  
وَقَاتَ الْأَوْسَعَ مِنْ نَا وَلَطَعَنَاهُ فَأَغْرَى إِنَّكَ رَبَّنَا  
وَإِنَّكَ الْمَصِيرُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا الْهَامَّا كَسَبَتْ  
وَعَلَيْهَا مَا أَكَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِنْ شَاءَنَا  
أَوْ أَخْطَكَنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا  
كَمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا  
وَلَا تُحَكِّمْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا لِهِ وَأَعْفُ عَنَّا  
وَأَغْفِرْنَا لَنَا وَأَرْجِنَا إِنَّكَ مُوَلَّنَا فَأَنْصُرْنَا  
عَلَى الْفَوْمِ الْكَافِرِ بَكَ

---

= ati ni aije ti Olóhun ni, o yé ki a yá fun ohun ti Olóhun ni ki a ya fun ki o mā bò si iyà fun wa, ki a si mā sé ohun ti Olóhun ba ni ki a sé ki a ba le se ori rere ati iwón igba ti o ti jé pe gbogbo ohun ti a fè fi pamò ati eyi ti a fi han gbogbo rè ni Olóhun mò. Olóhun si ni alagbara lori gboggbo nkan.

[1] Adua nla ni o wa ninu áyah yi ati meji ti o şiwaju rè, nitori ninu ipékun áyah yi, a bẹ́ Olóhun ki O fi oju fo awon aşıse wa. Léhinna ki otun fi ori jin wa ni ipari rè ki Osi kę wa. On ni Alaféhinti wa, ki O si ran wa lówó lori awon alaigbagbo.